

# رسولِ انقلاب

کا

# طریقِ انقلاب

نام کتابچہ ————— رسول انقلاب ﷺ کا طریق انقلاب  
 طبع اول (نومبر 2004ء) ————— 3300  
 ناشر ————— ناظم نشر و اشاعت، مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور  
 مقام اشاعت ————— 36۔ کے ماؤل ٹاؤن لاہور  
 فون: 03-5869501  
 مطبع ————— شرکت پرنگ پریس لاہور  
 قیمت (اشاعت عام) ————— 25 روپے  
 قیمت (اشاعت خاص) ————— 15 روپے

ڈاکٹر اسرار احمد  
 بانی تنظیم اسلامی

شائع کردہ  
 مکتبہ خدام القرآن لاہور  
 36۔ کے ماؤل ٹاؤن لاہور فون: 03-5869501

کچھ نہیں لگاڑ سکتی۔ گویا اس وقت دنیا میں ہمارا جو حال ہو رہا ہے وہ اذنِ رب ہی سے ہو رہا ہے۔ اور اس کا سبب یہ ہے کہ ہم اللہ کے دین کی صحیح نمائندگی نہیں کر رہے، بلکہ اپنے عمل سے اسے misrepresent کر رہے ہیں۔ تو اس کا حل ایک ہی ہے کہ ہم کم از کم دنیا کے کسی ایک ملک میں صحیح صحیح اسلامی نظام قائم کر کے دکھادیں۔ اور پھر دنیا کو دعوت دیں کہ آؤ، دیکھو یہ ہے اسلام!

ملکی اور قومی سطح پر پاکستان کے بارے میں بھی میرا یہ موقف آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان کے خاتمے کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ اس لئے کہ یہ اپنے قیام کی وجہ جواز کھو بیٹھا ہے۔ البتہ ابھی اللہ کی طرف سے ایک مہلت باقی ہے اور اب اس کے بقاء واستحکام کی صرف ایک صورت ہے کہ یہاں پر اسلامی انقلاب برپا ہو۔ یہ ملک اسی مقصد کے لئے قائم کیا گیا تھا۔ بانی و مؤسس پاکستان قائدِ اعظم نے کہا تھا کہ ہم پاکستان اس لئے چاہتے ہیں کہ اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک عملی نمونہ دنیا کے سامنے پیش کریں۔ یہی پات مفکروں بشر و مصور پاکستان علامہ اقبال نے فرمائی تھی۔

تیسری طرف یہ دیکھتے ہے کہ عالمی سطح پر اس وقت دنیا کی سب سے بڑی قوت امریکہ اور اس کے حواری اس بات پر تل گئے ہیں کہ دنیا میں کہیں پر اسلامی نظام کا ظہور نہ ہو۔ یہ وہی بات ہے جو علامہ اقبال نے اپنی زبان سے کہلوائی تھی۔

عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف

ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں!

آج امریکہ اور پوری مغربی دنیا پر بالفعل یہ خوف طاری ہے کہ کہیں دنیا کے کسی کون نے میں شرع پیغمبر کا عملی ظہور نہ ہو جائے۔ ظاہر بات ہے کہ ”جماعۃ الحقیقت“ کے بعد ”زہق الباطل“، اس کا لازمی نتیجہ ہے۔ اور یہ خوف ان پر اس درجے مسلط ہے کہ ان کی پوری گلوبل پالیسی اسی پر مرکوز ہو گئی ہے۔ اس لئے کہ انہیں نظر آ رہا ہے

نحمدہ وصلی علی رسولہ الکریم.....لما بعده:

اعوذ بالله من الشیطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم

﴿هُوَ اللَّهُ مَنْ أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالنُّهُدِ وَرَبِّنَ الْجِنَّاتِ عَلَى الْأَرْضِ مِنْ كُلِّهِ﴾

(التوبۃ: ۳۳؛ الفتح: ۲۸، الصدق: ۹)

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَّا كَافِةً لِلنَّاسِ بِشَيْءٍ أَوْ نَذِيرًا﴾ (سما: ۲۸)

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَبِّنَا اللَّهِ أُسْوَةٌ خَيْرٌ لِلنَّاسِ كَانَ يَرِيدُهُ اللَّهُ وَالنَّاسُ أَخْرُوْذَ كَرَّ اللَّهِ أَشْيَارًا﴾ (الاحزاب: ۲۱).....صدق اللہ العظیم

معزز حاضرین اور محترم خواتین، اسلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ میں اپنے موضوع پر براہ راست گفتگو سے قبل آپ کے سامنے ایک سوال رکھ رہا ہوں کہ آج امت مسلمہ کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ ہر شخص سوچ کہ کیا مال و دولت، حکومت، تعلیم، تیکانا لو جی یا جمہوریت میں سے کوئی چیز ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے؟ میرے تجزیے کے مطابق آج امت مسلمہ کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ وہ اسلامی انقلاب برپا کرنے کے اس طریقے کا رکو سمجھ لے جس طریقے پر محمد رسول اللہ ﷺ نے انقلاب برپا کیا۔ میرے سوچ کے یہ پہلو تو آپ حضرات پر واضح ہوں گے کہ اس وقت عالمی پیانے پر امت مسلمہ جس زیوں حالی کا شکار ہے یہ اصل میں عذابِ الہی ہے جس میں ہم بہتلا ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم زمین پر اللہ کے دین کے نمائندے بنائے گئے تھے لیکن ہم آج پوری دنیا میں کوئی ایک ملک بھی بطور ماذل ایسا نہیں دکھان سکتے جس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتیں کہ لوگو آؤ، دیکھو یہ ہے نظامِ مصطفیٰ ﷺ۔ یہ ہیں اللہ کے دین حق کے قیام کی برکات! لہذا ہم اللہ کے عذاب کی گرفت میں ہیں۔ یہ بات جان بچتے کہ اللہ کے اذن کے بغیر بھارت اور امریکہ سمیت دنیا کی کوئی طاقت ہمارا

میں نے یہ چند باتیں بطور تمہید عرض کی ہیں تاکہ آج کی گفتگو کی اہمیت آپ پر واضح ہو جائے۔ آج غلبہ اسلام کے لئے لوگوں کے جذبے میں کمی نہیں ہے، لیکن صحیح لائج عمل پیش نظر نہ ہونے کے باعث تحریکیں ادھر ادھر بھٹک رہی ہیں اور ان کا حال بالفعل یہ ہو گیا ہے کہ۔

نشانِ راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو  
ترس گئے ہیں کسی مردِ راہِ داں کے لئے!

اسلامی انقلاب کے لئے صحیح لائج عمل اختیار کرنا ہو گا جو صرف اسوہ رسول ﷺ میں ہے۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ یعنی تمہارے لئے اللہ کے رسول کی شخصیت اور حیاتِ طیبہ میں ایک بہت عمدہ نمونہ موجود ہے۔ لیکن اس ”اسوہ حسنہ“ سے استفادے کی تین شرائط ہیں، جو ساتھ ہی بیان فرمادی گئی ہیں: ﴿لَكُنْ كَانَ يَرِيدُ بُوَاللَّهِ وَالْيَوْمَ الْأَخْرَوْ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾ یعنی اس سے استفادہ وہی کر سکیں گے (۱) جو اللہ سے ملاقات کے امیدوار ہیں، (۲) جو یوم آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اور (۳) جو کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ یہی لوگ اس اسوہ حسنہ سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ جیسے قرآن ”خُدَى لِلَّهَسِ“، یعنی تمام نوع انسانی کے لئے ہدایت ہے، لیکن اس کی ہدایت سے فائدہ وہی لوگ اٹھا سکیں گے جس کے اندر تقویٰ موجود ہے۔ چنانچہ رسول ﷺ کے آغاز ہی میں واضح کر دیا گیا کہ یہ ”خُدَى لِلَّهَسِ“ ہے۔

### انقلاب کا لغوی و اصطلاحی مفہوم

اس تمہیدی گفتگو کے بعد سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ انقلاب کے کہتے ہیں۔ اس کے لفظی معنی ہیں تبدیلی۔ لہذا ہم یہ لفظ کسی بھی لفظ کے ساتھ جوڑ کر استعمال کر لیتے ہیں۔ مثلاً علمی انقلاب، ثقافتی انقلاب، سائنسی انقلاب، فوجی انقلاب۔ لیکن لفظ ”انقلاب“ کے اصطلاحی مفہوم میں اس استعمال کی گنجائش

کہ عالمِ اسلام کے اندر اسلامی نظام کو قائم کرنے کا جذبہ انگڑائیاں لے رہا ہے اور یہ جذبہ ان کے اعتبار سے بہت خوفناک جذبہ ہے۔ اس ضمن میں کمی صرف یہ ہے کہ ابھی اس جذبے کو صحیح راؤ عمل نہیں مل رہی اور محض جذبہ اس وقت تک ناکافی ہے جب تک اسے صحیح لائج عمل بھی نہیں مل جائے۔

ان تینوں زاویوں کے حوالے سے میری بات جس نقطے پر آ کر مرکوز ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کو نظامِ زندگی کے طور پر نافذ و غالب کرنے کے لئے صحیح لائج عمل واضح کیا جانا وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اور صحیح لائج عمل وہی ہو گا جو سیرت النبی ﷺ سے ماخوذ ہو۔ ہم نے وہ احادیث ایک جگہ جمع کر کے بہت عام کی ہیں جن سے یہ یقین پیدا ہوتا ہے کہ قیامت سے قبل پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا ہو گا اور کفار کا ”نیو ولڈ آرڈر“ نہیں، اسلام کا ”Just World“، پوری دنیا پر غالب ہو کر رہے گا۔ یہ جس ”نیو ولڈ آرڈر“ کو دنیا پر سلطنت کرنا چاہتے ہیں وہ درحقیقت ”جو (یہودی) ولڈ آرڈر“ ہے، جبکہ اسلام کو ولڈ آرڈر منصفانہ اور عادلانہ نظام ہے اور اس کے بارے میں محمد رسول ﷺ نے خوشخبری دی ہے کہ یہ قیامت سے قبل پوری دنیا پر غالب ہو گا۔ ظاہر بات ہے کہ اسلام کے عالمی غلبے کا آغاز اسی طور سے ہو گا کہ یہ نظام پہلے کسی ایک ملک میں قائم ہو گا، جیسے حضور ﷺ کے دست مبارک سے ”جاءَ أَنْجَلُ وَرَحْشُ الْبَطَلِ“ کی کیفیت جزیرہ نما عرب میں پیدا ہوئی تھی۔ دنیا کے کسی ایک ملک میں بھی یہ نظام کسے قائم ہو گا؟ اس کے ضمن میں امام دارال衡ت امام مالکؓ کا قول ہے: ﴿لَا يَصْلُحُ آخِرُ خَلْدٍ وَالْأَمْمَةُ إِلَّا بِمَا صَلَحَ يَهُؤُلُهَا﴾، یعنی اس امت کے آخری حصے کی اصلاح نہیں ہو سکے گی، مگر اسی طریقے پر جس پر کہ پہلے حصے کی اصلاح ہوئی تھی۔ چنانچہ آج اسلامی انقلاب برپا کرنے کے لئے ہمیں محمد رسول ﷺ کے انقلاب کا طریقہ کاراچی طرح سمجھنا ہو گا اور پھر اسے apply کرنا ہو گا۔

نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے امریکہ میں آ کر سینیگاگ اور چرچ خریدے اور انہیں مساجد بنالیا، ہم نے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ انہوں نے یہاں بڑی تعداد میں ایفر و امریکنر کو اور پچھے گوروں کو بھی convert کر کے مسلمان بنالیا، ہم نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اس لئے کہ حیثیت مذہب ان کی اسلام سے کوئی جنگ نہیں ہے، لیکن ایک ایک نظام (Politico-Socio-Economic system) کی حیثیت سے اسلام انہیں قطعاً گوارا نہیں۔ اسلام کے اسی تصور کو وہ فنڈ امنیلارم کا نام دیتے ہیں۔ اور اس وقت چونکہ کچھ فنڈ امنیلارم لوگوں نے جو طریقہ کار اختیار کیا ہے اس پر دہشت گردی کا لیبل لگ گیا ہے، لہذا وہ فنڈ امنیلارم کو دہشت گردی (Terrorism) کے متراوف قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ کبھی وہ ”دہشت گردی“ کے خلاف جنگ“ کا نعرہ لگاتے ہیں تو کبھی ”بنیاد پرستی“ کے خلاف جنگ“ کا۔ حقیقت میں یہ جنگ اسلام کے نظام حیات کے خلاف ہے۔ یہ جنگ اسلام کے عقائد عبادات اور رسمات کے خلاف نہیں ہے۔

آج کی اصطلاح میں انقلاب اس اجتماعی نظام میں کسی تبدیلی کو کہتے ہیں۔ مذہبی میدان میں کسی بڑی سے بڑی تبدیلی کو بھی انقلاب نہیں کہا جاسکتا۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے، اس کو سمجھ لجھے۔ تاریخ انسانی میں سب سے بڑی مذہبی تبدیلی ۳۰۰ عیسوی میں ہوئی تھی جب شہنشاہِ روم قسطنطین اعظم نے عیسائیت اختیار کر لی تھی اور ساری سلطنت عیسائی ہو گئی تھی۔ مذہبی تاریخ کے اندر اتنی بڑی تبدیلی کبھی نہیں ہوئی۔ سلطنت روم اس وقت تین براعظموں پر پھیلی ہوئی تھی، یعنی پورا شماںی افریقہ، پورا مشرقی یورپ اور پورا مغربی ایشیا۔ لیکن اتنی بڑی مذہبی تبدیلی کا نام کبھی انقلابات کی تاریخ میں نہیں گنوایا گیا۔ اس لئے کہ اس مذہبی تبدیلی سے سیاسی، معاشری یا سماجی نظام میں کوئی بنیادی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ انقلاب (Revolution) وہ تبدیلی کہلائے گی جو کسی ملک کے سیاسی

نہیں۔ بلکہ کسی معاشرے کے سیاسی نظام، معاشری نظام یا سماجی نظام میں سے کسی ایک میں بنیادی تبدیلی کو صحیح انقلاب سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ آج دنیا بھر میں انسانی زندگی کو دو حصوں میں تقسیم مانا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک حصہ فرد کی انفرادی زندگی سے متعلق ہے، جبکہ دوسرا حصہ زندگی کے اجتماعی معاملات کو محیط ہے۔ ان میں سے مقدم الذکر حصہ مذہب کا دائرة کار ہے جو کہ عقائد (dogmas)، مراسم عبودیت (rituals) اور سماجی رسمات (social customs) پر مشتمل ہے۔ آج دنیا بھر میں ان معاملات میں فرد کو آزاد تسلیم کیا جاتا ہے۔ چنانچہ ہر شخص کو آزادی حاصل ہے کہ وہ جس طرح کے چاہے عقائد اپنا لے۔ چاہے وہ ایک خدا کو مانے، چاہے سوکو مانے یا ہزار کو مانے، چاہے کسی کو بھی نہ مانے۔ جس طرح چاہے مراسم عبودیت بجالائے۔ چاہے گوشہ نشین ہو کر تپیاں میں کرے، چاہے بتوں کے آگے سجدے کرے، یا ایک نادیدہ خدا کی پرستش کرے۔ مراسم عبودیت کی اسے آزادی ہے۔ چاہے روزے رکھئے، نماز پڑھئے، چاہے مندر میں جائے یا چرچ میں، اجازت ہے۔ اسی طرح سماجی رسمات ادا کرنے میں وہ آزاد ہے۔ شادی کے موقع پر چاہے نکاح پڑھوائے چاہے پھرے ڈلوائے۔ فوت شدہ شخص کی میت کو چاہے دفن کیا جائے، چاہے اسے جلا دیا جائے۔

زندگی کا دوسرا حصہ تہذیب، تمدن، ریاست اور سیاست یعنی اجتماعی نظام سے متعلق ہے اور یہ سیاسی نظام، معاشری نظام اور سماجی نظام (The Politico-Socio-Economic System) پر مشتمل ہے۔ اس کا تعلق مذہب سے نہیں ہے۔ اس کا نام سیکولرزم ہے۔ واضح رہے کہ سیکولرزم کا مطلب لا مذہبیت نہیں ہے، بلکہ یہ ہمہ مذہبیت، لا دینیت کے اصول پر مبنی ہے۔ سیکولرزم میں مذہب تو سارے قابل قبول ہیں۔ یہ بات تو بخش بھی کہتا ہے کہ ”We are ready to embrace Islam“، اسلام بطور مذہب پر انہیں کوئی اعتراض

رکن تھا۔ اس نے ۱۹۲۰ء میں بڑی لالہاں لا ہور میں ”اسلام کا تاریخی کردار“، (The Historical Role of Islam) کے عنوان سے پیغمبر دیا اور کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے برپا کیا۔ واضح رہے کہ وہ عقیدت مند نہیں ہے، ایک بنگالی ہندو ہے اور تاپ کا کمیونسٹ ہے، لیکن وہ یہ بات تسلیم کر رہا ہے۔ یہ تو ۱۹۲۰ء کی بات ہے، یعنی صدی کے آغاز سے ۲۰ برس بعد۔ اب ۱۹۸۰ء پر آجائیئے، صدی کے اختتام سے برس قبل۔ امریکہ میں ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے کتاب ”The 100“، لکھی۔ اس کتاب میں اُس نے پانچ ہزار سالہ معلوم انسانی تاریخ میں سے ایسے ایک سو انسانوں کا انتخاب (selection) کر کے ان کی درجہ بندی (gradation) کی، جنہوں نے انسانی تمدن کے دھارے کے رخ کو موڑنے میں مؤثر کردار ادا کیا۔ اور اس درجہ بندی میں وہ نمبر ایک پر لا یا محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کو۔ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نہب کے اعتبار سے عیسائی ہے اور میری اطلاع کی حد تک ابھی زندہ ہے، اور میں ہن میں رہائش پذیر ہے۔ اس کی یہ کتاب دنیا میں بہت عام ہوئی ہے، لیکن اشاعت کے بعد وہ بہت جلد نایاب ہو گئی تھی اور عام خیال یہ تھا کہ شاید کسی سازش کے تحت اسے غائب کیا گیا ہے۔ اس لئے کہ اس نے اس کتاب میں (عیسائیوں کے نزدیک خدا کے اکلوتے ہیں) حضرت مسیح کو نہترین پر رکھا اور حضور ﷺ کو نمبر ایک پر لا یا، اور یہ بات عیسائی دنیا کے لئے قابل قبول اور قابل برداشت نہیں تھی۔ اس نے لکھا ہے:

*"My choice of Muhammad to lead the list of the world's most influential persons may surprise some readers and may be questioned by others, but he was the only man in history who was supremely successful on an international scale without using violence."*

## نظام، معاشری نظام، یا سماجی نظام سے متعلق ہوا اور بنیادی نوعیت کی ہو۔ کامل انقلاب کی واحد مثال: انقلاب نبوی

اب ہم دنیا کے چند مشہور انقلابات کا جائزہ لیتے ہیں۔ ان میں ”انقلاب فرانس“، بہت مشہور ہے اور اس میں شک نہیں کہ یہ واقعی انقلاب تھا۔ لیکن اس سے صرف سیاسی نظام میں تبدیلی آئی تھی۔ مذہب پہلے بھی عیسائیت تھا، بعد میں بھی وہی رہا۔ سماجی ڈھانچے (Social Structure) میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ تو انقلاب فرانس میں صرف سیاسی نظام تبدیل ہوا۔ دوسرا بہت مشہور انقلاب روس کا بالشویک انقلاب ہے جو ۱۹۱۷ء میں آیا۔ اس سے صرف معاشری نظام تبدیل ہوا۔ تمام ذرائع پیداوار قومیائے گئے اور انفرادی ملکیت کا خاتمه کر دیا گیا۔ نوٹ سمجھئے کہ یہ دونوں انقلابات ہیں جبکہ رومان امپائر کا بیک وقت کر سچیں ہو جانا انقلاب نہیں ہے۔

اب ذر احمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے برپا کردہ انقلاب کا جائزہ سمجھے۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھئے کہ کیا واقعی حضور ﷺ نے انقلاب برپا کیا۔ یا ہم صرف جوش عقیدت میں یہ دعویٰ کر بیٹھتے ہیں؟ واقعہ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب برپا کیا۔ یہ بات میں جذباتی انداز سے نہیں بلکہ ٹھنڈے تجزیے (Cold Analysis) سے ثابت کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں اس پر اغیار کی گواہیاں پیش کروں گا، اس لئے کہ ”انقلاب مانعِ حدیث یہ الاغداء“، (اصل فضیلت وہ ہوتی ہے جس کا دشمن بھی اقرار کریں)۔ دوست اور اعتقاد رکھنے والے تو ہر چیز کی تعریف ہی کریں گے، اصل تعریف وہ ہے جو دشمن کی زبان سے ہو۔ اگر شیردل گنگ رچڈ نے صلاح الدین ایوبی کی تعریف کی تو معلوم ہوا کہ واقعتاً صلاح الدین ایوبی بڑی عظیم شخصیت تھی۔

ایم این رائے ایک بنگالی ہندو تھا اور وہ انٹریشنل کمیونسٹ آرگانائزیشن کا

زیادہ زہریلے اور ان سے کہیں زیادہ کمینگی والے جملے کہے ہیں۔ لیکن جب اس نے آنحضرت ﷺ کے خطبہ جمیۃ الوداع کے مندرجہ ذیل الفاظ کا حوالہ دیا ہے تو وہ گھنٹے ٹیک کر خارج تحسین پیش کرنے پر مجبور ہو گیا ہے۔ خطبہ جمیۃ الوداع میں رسول ﷺ نے فرمایا تھا:

(إِيَّا إِيَّاهَا النَّاسُ! إِلَّا إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ وَإِنَّ أَبَّا كُمْ وَاحِدٌ، إِلَّا فَخُلِّنِي عَلَىٰ إِنْجِنِي وَلَا إِنْجِنِي عَلَىٰ عَزَّبِي وَلَا إِنْعَزَّبِي عَلَىٰ أَسْوَدِي وَلَا أَسْوَدِي عَلَىٰ أَحْمَرِي إِلَّا يَا تَقْوَىٰ) (مندرجہ ۲۲۹۷۸)

”لوگو! آ گاہ ہو جاؤ، یقیناً تمہارا رب ایک ہے اور تمہارا باپ بھی ایک ہے۔ خبردار! نہ کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت حاصل ہے اور نہ کسی عجمی پر۔ اور نہ کسی کو کسی کا لے پر کوئی فضیلت حاصل ہے اور نہ کسی کا لے کو کسی گورے پر۔ فضیلت کی بنیاد صرف تقویٰ ہے۔“

انج جی ویلز اگرچہ عیسائی ہے، لیکن خطبہ جمیۃ الوداع کا حوالہ دینے کے بعد وہ یہ اعتراف کرنے پر اپنے آپ کو مجبور پاتا ہے:

”اگرچہ انسانی اخوت، مساوات اور حریت کے وعظ تو دنیا میں پہلے بھی بہت کہے گئے تھے اور ایسے وعظ ہمیں سچ ناصری کے ہاں بھی بہت ملتے ہیں، لیکن یہ تسلیم کے بغیر چارہ نہیں کہ یہ محمد ﷺ ہی تھے جنہوں نے تاریخ انسانی میں پہلی بار ان اصولوں پر ایک معاشرہ قائم کیا۔“

چنانچہ دشمنوں کی گواہی سے بھی یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب تھا جو محمد رسول ﷺ نے برپا فرمایا۔ انقلابِ محمدی (علی صاحبہ الصلوٰۃ والسلام) کا انقلاب فرانس اور انقلابِ روس سے تقابل کریں تو نظر آتا ہے کہ انقلاب فرانس میں صرف سیاسی نظام بدلا اور انقلابِ روس میں صرف معاشی نظام تبدیل ہوا۔ لیکن انقلابِ محمدی میں ہر چیز بدلتی۔ مذہب بھی بدلتا ہے۔

*successful on both the religious and secular levels."*

ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کے نزدیک انسانی زندگی کے دو عیحدہ عیحدہ میدان ہیں۔ ایک ہے مذہب، اخلاق اور روحانیت کا میدان، جبکہ ایک ہے تمدن، تہذیب، سیاست اور معاشرت کا میدان، اور ان دونوں میدانوں میں انتہائی کامیاب (Supremely successful) انسان تاریخ انسانی میں صرف اور صرف ایک ہی ہیں اور وہ ہیں حضرت محمد ﷺ۔ جن لوگوں کو بالعموم بڑا سمجھا جاتا ہے ان کی عظمت کسی ایک پہلو سے نمایاں ہوتی ہے۔ عبادت گزاری اور نفس کشی میں گوتم بدھ بہت اونچا ہے۔ اخلاقی تعلیمات کے اعتبار سے حضرت مسیح بہت اونچے ہیں، لیکن ریاست، حکومت اور سیاست میں ان کا کوئی دخل نہیں۔ فتوحات اور ملک گیری کے حوالے سے سکندر اعظم بہت اونچا ہے، اثیلہ بہت اونچا ہے، چنگیز خان بہت اونچا ہے، اکبر اعظم بہت اونچا ہے۔ اور بھی بڑے بڑے حکمران ہو گزرے ہیں۔ — لیکن دین، اخلاق اور روحانیت میں ان کا کوئی مقام تھا؟ یہاں زیر و سے بھی کام نہیں چلے گا، minus لانا پڑے گا۔ تاریخ انسانی میں صرف اور صرف ایک ہی انسان ہے جو ہر دو اعتبار سے بلند ترین اور کامیاب ترین قرار پاتا ہے۔ — اور وہ ہیں محمد رسول ﷺ۔

اغیار کی گواہیوں میں سے تیسرا گواہی میں انج جی ویلز کی دیا کرتا ہوں، لیکن اس کی جس عبارت کا میں حوالہ دیتا ہوں، اس کی کتاب ”A Concise History of the World“ کے نئے ایڈیشن سے اس عبارت کو نکال دیا گیا ہے۔ واقعتاً کسی دشمن کی زبان سے اس سے بڑا خارج تحسین ممکن نہیں۔ اس لئے کہ انج جی ویلز بدترین دشمن ہے۔ اس نے حضور ﷺ کی سیرت طیبہ پر سلمان رشدی اور تسلیمہ نسرین (دو بدجنت جو مسلمانوں میں پیدا ہوئے) ان سے کہیں

کہ ابتداء سے انہا تک اس کی قیادت ایک ہی ہستی کر رہی ہے۔ ایک وقت میں وہی ہیں جو کے میں street preaching کر رہے ہیں، گلی گلی گھوم کر دعوت دے رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں۔ کوئی پا گل کہتا ہے، کوئی مجذون کہتا ہے، کوئی کہتا ہے شاعر ہیں۔ آپ ﷺ سب برداشت کر رہے ہیں۔ آپ نے کبھی پلٹ کرنیں کہا پا گل تم ہو۔ لیکن وہی شخص ہے جو میدان بدر میں فوج کی کمان کر رہا ہے۔ کوئی ہے تاریخ میں اس کی مثال؟ میں پھر ڈاکٹر ماٹکل ہارت کے وہی الفاظ دھراوں گا He is the only, the only, the only person کہاں گلی گلی دعوت دینے والا ایک شخص، کہاں ایک فوج کی کمان کرنے والا قائد کوئی ہے مناسبت؟

اس حوالے سے ایک بڑی اہم بات نوٹ کیجھے کہ ٹائن بی پچھلی صدی کا ایک بہت بڑا فلاسفہ آف ہسٹری گزارا ہے۔ اس نے حضور ﷺ کے بارے میں ایک بڑا ذہر میں بجھا ہوا جملہ کہا ہے:

*"Muhammad failed as a prophet, but succeeded as a statesman."*

یعنی ”محمد (ﷺ) ایک نبی کی حیثیت سے تو ناکام ہو گئے (نقل کفرنباشد) البتہ ایک سیاست دان کی حیثیت سے کامیاب ہو گئے“۔

ٹائن بی کے اس ایک جملے کی شرح میں الگینڈ کے پروفیسر ڈاکٹر ٹنکری واث نے دو کتابیں لکھ دیں: Muhammad at Mecca اور Muhammad at Madina — ”محمد ایک مدینہ“، میں اس نے بظاہر حضور ﷺ کے لئے تعریف کے جو الفاظ ممکن تھے superlative ڈگری میں استعمال کئے، لیکن باطن اس نے ایک تضاد contrast (ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے کہ مکے والا محمد تو کچھ اور تھا اور یہ مدینہ والا محمد کچھ اور ہے۔ ان تعریفی الفاظ سے دھوکہ کھا کر ضیاء الحق مرحوم نے اس ٹنکری واث کو مرکزی سیرت کا نفرنس کے اجلاس میں

گیا، عقائد بھی بدل گئے، رسومات بھی بدل گئیں، سیاسی نظام بھی بدل گیا، معاشی نظام بھی بدل گیا، معاشرت بھی بدل گئی۔ کوئی بھی شے اپنی سابقہ حالت پر قائم نہیں رہی۔ ڈھونڈ کر بتائیے کہ فلاں چیز جوں کی توں رہ گئی۔ جہاں پڑھے لکھے لوگ الگیوں پر گئے جاسکتے تھے، اس قوم کو آپ ﷺ نے علم کے میدان میں دنیا کا امام بنا دیا۔ انہوں نے نئے نئے علوم ایجاد کئے، پوری دنیا کا علم سمیت کر، ہندوستان اور یونان تک سے علم لے کر، اور اسے مزید develop کر کے دنیا کے سامنے رکھا۔ تو پہلی بات یہ ثابت ہوئی کہ دنیا کا جامع ترین، گھمیرتین اور most profound انقلاب محمد عربی ﷺ کا انقلاب تھا، کوئی دوسرا انقلاب اس کے مقابلے میں نہیں آ سکتا۔ باقی سب جزوی (partial) انقلابات تھے۔ باقی تمام انقلابات میں آپ دیکھیں گے کہ فکر اور دعوت دینے والے کچھ اور لوگ تھے جبکہ انقلاب برپا کرنے والے کچھ اور۔ مارکس اور انجلز نے کتاب Das Capital جرمنی یا انگلستان میں بیٹھ کر لکھی، لیکن جرمنی اور انگلستان کے کسی ایک گاؤں میں بھی مارکس انقلاب نہیں آیا، بلکہ تیسرا ٹیواری کے تیواری کے تھا اسے کہاں جا کر روس میں بالشویک اور مانشویک کے ہاتھوں انقلاب آیا، اور عین وقت پرفرنٹ پر لینن آ گیا۔ اس انقلاب کے برپا کرنے میں نہ مارکس کا کوئی حصہ ہے نہ انجلز کا۔ تو فکر دینے والے اور تھے، اور انقلاب برپا کرنے والے اور۔ اسی طرح والٹیر اور روسو جیسے بے شمار اصحاب قلم تھے جنہوں نے حریت، آزادی اور جمہوریت کا ایک فکر دیا تھا، لیکن وہ محض ڈیک ورکر تھے، کتابیں لکھ سکتے تھے، میدان میں آ کر قیادت نہیں کر سکتے تھے۔ لہذا فرانس میں انقلاب برپا کیا اواباش اور بدمعاش لوگوں نے۔ یہی وجہ ہے کہ انقلاب فرانس انتہائی خونیں انقلاب تھا۔ اسے کنٹرول کرنے والا کوئی تھا ہی نہیں اور جموم (mob) جو چاہے کر گزرے۔ اب ذرا contrast دیکھئے کہ محمد رسول اللہ ﷺ کا انقلاب دنیا کا واحد انقلاب ہے

بلکہ فکر دینے والے مرکھ پ گئے، بعد میں کہیں وہ فکر پروان چڑھا اور اس کی بنیاد پر کہیں انقلاب آ گیا۔ جبکہ محمد رسول اللہ ﷺ کا انقلاب اس اعتبار سے منفرد اور لااثانی ہے کہ ایک انسانی زندگی کے اندر، کل ۲۳ سال کے عرصے میں، الف سے ی تک انقلاب کے تمام مراحل طے ہو گئے۔

اس سے میں یہ نتیجہ اخذ کرتا ہوں کہ آج عہد حاضر میں اجتماعیات، سوشیالوجی یا پولیٹکل سائنس کا کوئی طالب علم پوری دیانت داری سے انقلاب کا صحیح طریق کا راخذ کرنا چاہے تو اسے صرف محمد رسول اللہ ﷺ کی سیرت طیبہ سے مکمل راہنمائی مل سکتی ہے۔ مارکس، انجلز، لینن یا والٹریٹ کی زندگیوں سے اس ضمن میں قطعاً کوئی راہنمائی حاصل نہیں ہو سکتی۔ گویا طریق انقلاب کے لئے اب دنیا کے سامنے صرف ایک ہی منبع و سرچشمہ (source) ہے اور وہ رسول اللہ ﷺ کی سیرت طیبہ ہے۔ چنانچہ میں انقلاب کے طریق کا پروج کچھ عرض کر رہا ہوں اس کے لئے میرا صرف سیرتِ محمدی ہے۔ میں اسلامی اصطلاحات دین، اسلام، ایمان، جہاد اور قیال استعمال کئے بغیر جدید اصطلاحات میں انقلاب کے مراحل آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دورِ زوال کے دوران ان اصطلاحات کا مفہوم محدود اور مسخ (limited and perverted) ہو گیا ہے اور ہم جب بھی کوئی اصطلاح استعمال کرتے ہیں تو اس کا وہی مسخ شدہ تصور ہن میں آتا ہے۔ لہذا اگر ان اصطلاحات سے صرف نظر کرتے ہوئے جدید terminology میں بات کی جائے تو انقلاب کا خاکہ نسبتاً آسانی سے سمجھ میں آ سکتا ہے۔ اس کے بعد مناسب ہو گا کہ اس خاکہ میں قرآن و حدیث کی اصطلاحات، سیرت النبی ﷺ اور واقعات کا رنگ بھردیا جائے۔

چیف سپیکر کی حیثیت سے بلا لیا تھا۔ انہیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس نے کس عیاری سے سیرت طیبہ میں یہ تضاد دکھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ دو محمد (علیہما السلام) علیحدہ علیحدہ ہیں، ان کی تصویریں مختلف ہیں۔

درactual جب یہ لوگ حضور ﷺ کے کی زندگی دیکھتے ہیں تو اگرچہ وہ آپ ﷺ کو نبی یا رسول نہیں مانتے لیکن وہ یہ ضرور مانتے ہیں کہ آپ کی زندگی نبیوں سے کچھ مشابہ ہے۔ جیسے حضرت عیسیٰؑ گھوم پھر کرتے تھے، ایسے ہی حضرت محمد ﷺ دکھائی دے رہے ہیں۔ جیسے حضرت عیسیٰؑ کو جو کچھ کہا گیا انہوں نے برداشت کیا، کوئی جواب نہیں دیا، اسی طرح کا طرزِ عمل حضرت محمد ﷺ نے بھی اختیار کیا۔ چنانچہ ان کے نزدیک یہ تو کچھ نبیوں والا نقشہ ہے، جس میں آپ (معاذ اللہ) فیل ہو گئے۔ یہاں سے تو، بقول ان کے جان بچا کر بھاگنا پڑا۔ وہ بھرت کو flight (فرار) کا نام دیتے ہیں، حالانکہ flight تو کسی خوف کی بنیاد پر ہوتی ہے، جبکہ بھرت خوف کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ یہ ایک حکمت عملی تھی اور اس کا مقصد اپنے لئے تبادل Base (strategy) تلاش کرنا تھا۔ ہر حال ان مستشرقین کو مدینے میں فروکش ایک بالکل نئے محمد (علیہما السلام) نظر آ رہے ہیں جو بڑے مدبر سیاستدان ہیں، جو ایک ریاست کے حکمران ہیں، جو فوج کے کمانڈر ہیں۔ یہاں آ کر آپ یہودیوں سے معاہدے کر رہے ہیں۔ یہاں پر ان کے تدبیر، statesmanship اور موقع شناسی کا کمال ظاہر ہو رہا ہے۔ ان کے نزدیک یہ آنحضرت ﷺ کی حیات طیبہ کا تضاد ہے۔

اس کا حوالہ صرف اس لئے دے رہا ہوں کہ حضور ﷺ کی زندگی اس اعتبار سے واقعی contrast کی حامل ہے کہ ایک انقلابی دعوت کا آغاز بھی آپ نے کیا اور اسے کامیابی کی آخری منزل تک بھی خود پہنچایا۔ دنیا کے انقلابات میں سے کوئی بھی دوسرा انقلاب ایک حیاتِ انسانی کے عرصے (span) میں پورا نہیں ہوا،

بیت اجتماعی کے تحت منظم کیا جائے۔ اس بیت اجتماعی یا تنظیم کی بھی دو شرطیں ہیں۔ اولاً یہ بڑی مضبوط ڈسپلن والی تنظیم ہونی چاہئے۔ اس لئے کہ جب مقابلہ پیش آئے گا اور آپ موجودہ نظام کو ختم کرنے کے لئے میدان میں آئیں گے تو مراجعت یافتہ طبقات جن کے اس نظام سے مفادات وابستہ ہیں، اس نظام کی پاسبانی کی خاطر آپ کو سکھنے کے لئے اٹھ کھڑے ہوں گے یعنی ”نظامِ کہنہ“ کے پاسبانو یہ معرض انقلاب میں ہے!“ تب آپ کو ان کے مقابلہ ایک فوجی ڈسپلن کی ضرورت ہو گی۔ مخف mob مقابلہ نہیں کر سکے گا، بلکہ یہاں ”listen & obey“ کے اصول کے تحت منظم ہونے والی مضبوط جماعت درکار ہو گی جس کے ڈسپلن کا یہ عالم ہو کہ۔

*Their's not to reason why?*

*Their's but to do and die!*

ثانیاً یہ کہ اس تنظیم میں کارکنوں کی حیثیت اور مرتبے کا تعین تحریک کے ساتھ وفاداری اور قربانی کی بنیاد پر ہونا چاہئے، نہ یہ کہ کوئی برہمن ہوتا ونچا ہے اور شودر ہوتا ونچا ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر یہ انقلابی تنظیم نہیں۔ انقلابی تنظیم میں تو ہر شخص کی commitment کی گہرائی اور تحریک کے ساتھ اس کی وابستگی اور وفاداری کی بنیاد پر اس کی حیثیت کا تعین ہو گا، یہ بھی دیکھا جائے گا کہ اس نے کتنی قربانی دی ہے۔ عین ممکن ہے کہ ایک شودر کیونٹ پارٹی میں اوپر چلا جائے اور برہمن نیچے رہ جائے۔

### (۳) تربیت

تیسرا مرحلہ کارکنوں کی تربیت کا ہے۔ اس مرحلے میں انقلابی جماعت کے کارکنوں کے ذہنوں سے انقلابی نظریہ ایک لحظے کے لئے بھی او جھل نہیں ہونا چاہئے۔ اس لئے کہ اسی نظریے پر تو ساری انقلابی جدوجہد کا دار و مدار ہے۔ اگر

## انقلابی عمل کے لوازم و مراحل

ایک مکمل انقلاب کے چھ یا سات مرحلے ہیں۔

### (۱) انقلابی نظریہ

ہر انقلاب کی پہلی ضرورت ایک ایسا انقلابی نظریہ اور انقلابی فلسفہ ہوتی ہے جو پہلے سے موجود Politico-Socio-Economic System کی جڑوں پر تیش بن کر گرے۔ اور جب تک اس کے اندر ایسی کاش موجودہ ہو کہ یہ موجودہ سیاسی نظام کو کاشتا ہو، معاشری نظام کو کاشتا ہو، سماجی نظام کو کاشتا ہو اس وقت تک وہ انقلابی نظریہ نہیں مخف وعظ (Sermon) ہے۔ دوسرے یہ کہ اگر وہ نظریہ اور فلسفہ نیا ہے تو معاملہ آسان ہے۔ وہ اپنی اصطلاحات خود وضع کرے گا اور ان اصطلاحات کے معنی خود معین کرے گا۔ لیکن اگر وہ کوئی پرانا نظریہ ہے تو اب اس کی جدید تغیری پیش کرنا ہو گی اور اس کی وضاحت دور حاضر کی جدید اصطلاحات کے مطابق وقت کی علمی سطح پر کرنا ہو گی۔ پھر اس نظریے کو پھیلایا جائے، عام کیا جائے اور اس کے لئے دور جدید کے تمام میسر ذرائع ابلاغ استعمال کئے جائیں۔ پہلے کبھی صرف گلیوں بازاروں میں گھوم پھر کر لوگوں کو جمع کر کے دعوت دی جا سکتی تھی یا لوگوں کو کھانے پر بلا لیا جاتا اور ان کے سامنے کوئی بات رکھی جاتی۔ لیکن اب جلسے ہو سکتے ہیں، کتابیں لکھی جا سکتی ہیں۔ چنانچہ پرنٹ میڈیا اور الیکٹریٹ ایک میڈیا سمیت دور جدید کے تمام ذرائع ابلاغ انقلابی نظریے کی تشویہ و اشاعت کے لئے استعمال کئے جانے چاہئیں۔

### (۲) تنظیم

دوسرے مرحلے کے طور پر جو لوگ اس نظریے کو قبول کر لیں انہیں ایک

(logical) ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ معاشرے کے اندر conflict پیدا کرنے والے یہی انقلابی لوگ ہوتے ہیں۔ ورنہ لوگ آرام سے بیٹھے ہوئے تھے۔ امراء بھی تھے اور غرباء بھی۔ غرباء اپنی قسم پر راضی تھے، امراء اپنے ہاں عیش کر رہے تھے۔ غلام بیچارہ اپنا کام کر رہا ہے، اس کو پتا ہے میری قسم یہی ہے، مجھے خدا نے غلام بنا دیا۔ اسی لئے مارکس نے کہا تھا کہ مذہب عوام کا افیون ہے، لہذا عوام اپنے حال پر صابر و شاکر رہتے ہیں اور انقلاب کے لئے نہیں اٹھتے۔ وہ نظام کے خلاف بغاوت نہیں کرتے۔ چنانچہ جیسے ایک پُر سکون تالاب جس میں کوئی لہریں نہ ہوں، اس میں آپ نے پھر مار کر ارتعاش پیدا کر دیا ہوا سی طرح انقلابی لوگ پہلے سے قائم نظام کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں کہ یہ نظام غلط ہے، یہ ایک استھانی (exploitative) اور استبدادی (repressive) نظام ہے۔ یہ انسانوں کے اندر امتیازات (discrimination) قائم کر رہا ہے۔ تو کس نے پھر مارا؟ داعیان انقلاب نے! اب پھر پانی میں جائے گا تو کچھ لہریں تو اٹھیں گی۔ تو معاشرے میں جو لہریں اٹھتی ہیں وہ انقلابی دعوت کا ایک فطری رد عمل ہیں۔ البتہ اس رد عمل کے بھی مختلف درجات اور stages ہوتی ہیں۔

ان میں دو بڑی اہم ہیں۔ پہلی stage میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو شخص داعی انقلاب بن کر سامنے آیا ہے اس کی کردار کشی کی جائے، کسی نہ کسی طرح اس کی شخصیت کو مجرور کیا جائے، اس کی ہمت کو توڑ دیا جائے اور اس کی قوت ارادی کو ختم کر دیا جائے۔ لہذا تشدد اور تعذیب (persecution) کا واحد نشانہ داعی کی ذات بنتی ہے۔ اور یہ ایڈار سانی اول ایڈار سانی ہوتی ہے کہ یہ پاگل ہے، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، ہمارا نظام ٹھیک ٹھاک صدیوں سے چلا آ رہا ہے، ہمارے آباء و اجداد سے چلا آ رہا ہے، یہ اسے غلط کہتا ہے۔ اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے یا شاید آ سیب کا سایہ ہو گیا ہے، اس پر کوئی جن آ گیا ہے۔ اگر اس انداز

وہ انقلابی نظریہ ذہنوں میں راست ہے تو عمل کا جذبہ بھی بیدار رہے گا اور اگر وہ نظریہ مضم پڑ گیا تو جذبہ عمل بھی ختم ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہیں ڈسپلن کا عادی بنایا جائے کہ سینیں اور مانیں۔ یہ آسان کام نہیں ہے، بلکہ اس کے لئے بڑی ٹریننگ کی ضرورت ہے۔ بقول شاعر

ہم بھی تسلیم کی خود ڈالیں گے  
بے نیازی تری عادت ہی سکی!

لیکن تسلیم کی خود النا آسان نہیں ہے۔ اس میں اپنی انا آڑے آ جاتی ہے، بلکہ انا سے بڑھ کر انہیت راستے کا پھر بن جاتی ہے۔ انقلابی تربیت کا تیسرا ہدف یہ ہے کہ تحریک کے کارکنوں میں اپنا تن من، دھن سب قربان کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ اس کے بغیر انقلاب نہیں آ سکتا۔ بقول اقبال۔

تو بچا بچا کے نہ رکھا سے ترا آئندہ ہے وہ آئندہ  
کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئندہ ساز میں!

یہ تین تو انقلابی تربیت کے لازمی اجزاء ہیں۔ ان کے علاوہ چوتھا جزو یہ ہو گا کہ آپ انقلاب کے ذریعے سے جو نظام قائم کرنا چاہتے ہیں اس میں اگر کوئی روحانیت کا پہلو بھی مطلوب ہے تو کارکنوں کی روحانی تربیت بھی کرنا پڑے گی۔ کارکنوں کی روحانی تربیت کے بغیر انقلاب کے اندر روحانیت کہاں سے آ جائے گی؟

## (۲) صبر محض (Passive Resistance)

یہ مرحلہ کہنے کو تو نمبر ۲ ہے لیکن حقیقت میں اس کا آغاز پہلے مرحلے کے ساتھ ہی ہو جاتا ہے۔ صبر محض (Passive Resistance) کا مطلب یہ ہے کہ انقلابی تحریک کے کارکن اپنے موقف پر ڈٹے رہیں، پیچھے نہ ہٹیں، لیکن تشدد و تعذیب کے جواب میں کسی قسم کی جوابی کارروائی نہ کریں۔ اس کی وجہ بہت منطقی

اپنے تحفظ میں بھی ہاتھ نہیں اٹھانا چاہئے۔ اس کا نہایت اہم نتیجہ یہ نکلے گا کہ انقلابی کارکنوں کو عوام الناس کی ہمدردیاں حاصل ہو جائیں گی۔ دیکھنے معاشرے میں جہاں چوہدری، سردار، سرمایہ دار اور جاگیر دار ہیں وہاں عوام بھی ہیں۔ چوہدری، سردار، تعلقہ دار، جاگیر دار اور سرمایہ دار تو یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے خلاف انقلاب کی جدوجہد ہو رہی ہے، جبکہ عوام تو یہ نہیں سمجھ رہے ہوتے، لیکن ان میں انقلابیوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کی ہمت نہیں ہوتی، وہ ان کی حمایت میں بول بھی نہیں سکتے۔ اسی کو ہم خاموش اکثریت (silent majority) کہتے ہیں۔ عوام کی اکثریت خاموش ہوتی ہے، لیکن وہ انہیں بہرے تو نہیں ہوتے۔ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، انہیں کیوں مارا جا رہا ہے، کیوں قتل کیا جا رہا ہے، کیوں ان کے گھر بارود سے اڑائے جا رہے ہیں، کیوں ان کے پورے پورے خاندان کو لہوؤں میں پلوائے جا رہے ہیں۔۔۔۔۔ وہ سوچتے ہیں کہ ان کا آخر جرم کیا ہے؟ انہوں نے چوری کی ہے یا ڈاکہ ڈالا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں کیا۔۔۔۔۔ یہ تو محض ایک نظریے پر یقین رکھتے ہیں اور معاشرے سے ظلم و ناخافتی اور استھصال کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ عوام محسوس کرنے لگتے ہیں کہ ان پر واقعی ظلم ہو رہا ہے۔ چنانچہ اندر ہی اندر عوام کی ہمدردیاں ان انقلابیوں کے ساتھ ہو جاتی ہیں۔ گویا ع ”جودلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ!“

#### (۵) راست اقدام (Active Resistance)

انقلابی جدوجہد کا پانچواں مرحلہ اقدام کا ہوگا۔ یہ انتہائی نازک فیصلے کا وقت ہے اور قیادت کی ذہانت کا امتحان ہے۔ اس مرحلے کے لئے مناسب وقت کا تعین بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کی تیاری نہیں ہے اور آپ نے اقدام کر دیا تو آپ ختم ہو جائیں گے۔ دوسری طرف اگر تیاری پوری ہونے کے باوجود اقدام

سے داعی کی قوتی ارادی کو ختم کر دیا جائے تو اس کی ہمت جواب دے جائے گی۔ اب کسی اور کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ درخت کی جڑ کث جائے تو سارا درخت خود بخود ہی ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ داعی کھڑا رہ گیا، اپنی کردار کشی کی کوششوں کو برداشت کر گیا، جو ابا اس نے یہ نہیں کہا کہ تم پاگل ہو، میں نہیں ہوں، تمہارا دماغ خراب ہے میرا نہیں ہے، اور مخالفین نے دیکھا کہ یہ دعوت تو آگے بڑھ رہی ہے اور لوگ اس کے گرد جمع ہو رہے ہیں تو پھر زبانی ایذا رسانی سے آگے بڑھ کر جسمانی تشدد و تعذیب کی stage کا آغاز ہو جاتا ہے اور اب اس کا ناشانہ صرف داعی کی ذات نہیں بلکہ انقلابی تحریک کے تمام کارکن بالخصوص مزدور عوام اور اونچے گھرانوں کے نوجوان بنتے ہیں۔ اب انہیں مارا جاتا ہے، بھوکار کھا جاتا ہے، گھروں سے نکال دیا جاتا ہے۔ جیلوں میں ٹھونسن جاتا ہے، انہیں قتل کیا جاتا ہے، فائرنگ سکواڈز کے سامنے کھڑے کر کے ان کو سیکنکروں کی تعداد میں گولیوں سے اڑا دیا جاتا ہے۔

اب یہاں ”صبر محض“ کی ضرورت ہے کہ اس سارے تشدد کو کسی جوابی کارروائی کے بغیر برداشت کیا جائے۔ اس لئے کہ شروع میں انقلابی تحریک کے کارکن تھوڑے سے ہوتے ہیں۔ اگر وہ بھی مشتعل (violent) ہو جائیں تو اس سٹم کو حق حاصل ہو گا کہ انہیں کچل کر ختم کر دیا جائے۔ لیکن اگر وہ کچھ نہیں کر رہے، کوئی جوابی کارروائی نہیں کر رہے تو انہیں تشدد و تعذیب کا ناشانہ تو بنا یا جائے گا لیکن انہیں کچلا نہیں جاسکے گا۔ اس طرح انہیں مہلت عمل حاصل ہو جائے گی کہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اپنی دعوت پہنچا سکیں اور اپنا تنفسی Base سے زیادہ وسیع کر سکیں۔ یہ موجودہ سٹم سے اسی صورت میں براہ راست مکمل سکیں گے اگر ان کے پاس طاقت ہوگی۔ اور طاقت حاصل کرنے کے لئے ابھی انہیں وقت چاہئے، جسے میں ”to buy time“ کہتا ہوں۔ لہذا ابھی انہیں

کی سیرت طیبہ سے کوئی مثال نہیں دے رہا۔ اس لئے کہ پہلے آپ جدید اصطلاحات کے حوالے سے ایک خاکہ اپنے ذہن میں جمالیں پھر ہم اس میں سیرت نبوی سے رنگ بھریں گے۔ لیکن واضح رہے کہ میرا دعویٰ یہ ہے کہ طریق انقلاب کے علم و ادراک کے لئے میرے نزدیک محمد رسول اللہ ﷺ کی سیرت کے سوا کوئی اور ذریعہ نہیں۔ Active Resistance یہ ہے کہ آپ نظام کی کسی دھمکی رنگ کو چھیڑیں، اگرچہ آپ نے براہ راست ابھی کوئی چیخنے نہیں کیا، کوئی الٹی میٹنے نہیں دیا۔ مثال کے طور پر گاندھی نے انگریز حکمرانوں کے خلاف سب سے پہلے ”عدم تشدد، عدم تعاون“ کا نعرہ بلند کیا تھا۔ یعنی ہم تشدد نہیں کریں گے، مار دھماڑ نہیں کریں گے، لیکن ہم انگلینڈ کی ملووں میں بنا ہوا کپڑا استعمال نہیں کریں گے۔ بلکہ ہم تو اپنا چرخہ چلا کیں گے، اس پرسوت کا تین گے اور اس سے کھدر بیٹیں گے اور وہ پہنیں گے۔ چرخے کو انہوں نے اپنا قومی نشان قرار دے دیا۔ ذرا غور تو سمجھئے کہ بیسویں صدی میں ایک قوم اور اس کی ایک جماعت چرخے کو اپنا قومی نشان قرار دے رہی ہے۔ اب بتائیے کیا کوئی قانون ہو سکتا ہے کہ تم ضرور و لا یتی کپڑا پہنہو؟ اور کیا انہوں نے کسی اور کوئی نقصان پہنچایا؟ کسی کی جان اور مال کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا گیا، لیکن حکومتی ایوانوں میں محلبی مح گئی۔ اس لئے کہ ماخض کی ملیں بند ہونے لگیں۔ اندیا برطانوی کپڑے کی بہت بڑی مارکیٹ تھا اور یہاں انگلینڈ سے آنے والے لٹھے، گرم کپڑے اور ملک کی بہت زیادہ کھپت تھی۔ لیکن اب یہاں صرف ”کھادی“ چل رہی تھی۔ یہ انگریز کے خلاف Active Resistance کا پہلا قدم تھا۔ اس سے انگریزوں کو پتہ چل گیا کہ اب کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے۔ اس تحریک کا دوسرا قدم عدم تشدد پر منی سول نافرمانی کی تحریک تھا کہ ہم کوئی تشدد نہیں کریں گے، کوئی توڑ پھوڑ اور مار دھماڑ نہیں کریں گے، لیکن قانون توڑیں گے۔ اور قانون شکنی کا انداز ملاحظہ ہو کہ پر ماتما کا سمندر ہے، پر ماتما

میں تاخیر کر دی تو آپ نے موقع کھو دیا۔ You have missed the bus — گویا اگر آپ نے موقع گنوادیا تب بھی آپ ناکام ٹھہریں گے اور اگر آپ نے قبل از وقت اقدام کر دیا، تب بھی ناکام قرار پائیں گے۔ اقدام کا فیصلہ اس وقت کیا جانا چاہئے جب یہ محسوس ہو کہ ایک توہماری تعداد کافی ہے۔ ”کافی“ کا مطلب مختلف حالات میں مختلف ہو گا۔ ایک چھوٹے سے ملک میں جس کی ایک کروڑ کی آبادی ہے، شاید پچاس ہزار آدمی بھی ایسے تیار ہو جائیں تو کافی ہو جائیں گے، جبکہ پندرہ کروڑ کی آبادی کے ملک میں تین چار لاکھ تربیت یافتہ افراد درکار ہوں گے۔ دوسرے یہ کہ اب ان کے اندر ڈسپلن کی پوری پابندی ہوئی ہو اس کے اصول کے خواہ ہو گئے ہوں کہ انہیں حکم دیا جائے گا تو حرکت کریں گے اور جب رکنے کا کہا جائے گا تو رُک جائیں گے۔ ایسے انقلابی نہ ہوں کہ اول تو چلتے ہی نہیں اور اگر چل پڑیں تو رُکتے ہی نہیں۔ مالا کنڈ میں صوفی محمد صاحب کی جو تحریک نفاذِ شریعت چل تھی اس میں قائد نے حکم ہی نہیں دیا تھا اور گولیاں چلنی شروع ہو گئی تھیں۔ پھر ان کے کارکنوں نے پہاڑوں پر جا کر مورچے بیالے تھے۔ ان کے قائد نے انہیں نیچے اترنے کا حکم دیا تو انہوں نے کہا مولوی بک گیا۔ تو یہ منظم جماعت نہیں تھی، اس میں ڈسپلن نہیں تھا، بلکہ یہ ایک بجوم (mob) تھا جو ایک جذباتی اپیل کے تحت آگے آ گیا تھا۔ اس ضمن میں تیسرا شرط یہ ہے کہ انقلابی کارکن اپنے مشن کی خاطر اپنے جان و مال سمیت ہر چیز قربان کرنے کے لئے تیار ہوں۔ جب یہ تین شرطیں پوری ہوں تو یہ تحریک صبر مغض (Passive Resistance) سے راست اقدام (Active Resistance) کے مرحلے میں منتقل ہو سکتی ہے۔

اب یہ سمجھ لیجئے کہ راست اقدام (Active Resistance) کا مطلب کیا ہے۔ اس کے لئے بھی میں باہر سے مثالیں دوں گا، ابھی میں حضور ﷺ

سے سمجھ سکتے ہیں۔

گفتند جہاں ما آیا بہ تو می سازد؟  
گفتتم کرنی سازد، گفتند کہ برہم زن!

اس شعر میں اقبال اللہ سے اپنا ایک مکالمہ بیان کر رہا ہے۔ اللہ نے مجھ سے کہا اے اقبال! میں نے تمہیں اپنی جس دنیا میں بھیجا ہے آیا وہ تمہارے ساتھ سازگار ہے؟ کیا تمہیں وہ پسند ہے؟ میں نے کہا کہ نہیں، مجھے پسند نہیں! یہاں ظلم ہے، یہاں غریب پس رہا ہے۔ یہاں مزدور کے رگوں کے خون کی سرفی سے شراب کشید کر کے سرمایہ دار پیتا ہے۔

خواجہ از خونِ رگ مزدور سازِ لعلِ ناب  
از جفائنِ دہ خدا یاں کشتِ دہقانِ خراب  
انقلاب! انقلاب! اے انقلاب!!

سرمایہ دار نے مزدور کی رگوں میں دوڑنے والے خون سے سرخ شراب کشید کی ہے اور جا گیرداروں کے ظلم و ستم سے دہقان کی کھیتی خراب ہے۔ اس کے بچھوکے ہیں اور اس کی کھیتی سے ان کی غذا کا اہتمام نہیں ہو رہا۔ یہ اقبال کی بڑی عظیم ظلم ہے جس میں اس نے انقلاب کا نعرہ لگایا ہے۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ جب میں نے کہا کہ مجھے تیرا یہ جہاں پسند نہیں یہ میرے لئے سازگار نہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ”برہم زن!“، یعنی اسے توڑ پھوڑ دو، درہم برہم کر دو! یہاں انقلاب برپا کر دو!!

اب اس انقلاب کا طریق کا رکیا ہو؟ اسے اقبال نے دو مصروعوں میں بیان کر دیا ہے۔ پہلے مصروعہ میں چار مرحلے اور دوسرا میں دو مرحلے بیان کئے ہیں۔ با نشہ درویشی در ساز و دادم زن  
چوں پختہ شوی خود را بر سلطنتِ جم زن!

نے اس میں نمک پیدا کیا ہے، ہم پر ماتما کے سمندر سے نمک نکالنے جا رہے ہیں۔ ہم نے تو کسی کو کچھ نہیں کہا۔ لیکن اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ نے برتاؤ نی حکومت کی تیکس پالیسی کو چینچ کر دیا۔ اس لئے کہ نمک پر ایک سائزڈ یوٹی عائد تھی۔ چنانچہ اب لاٹھیاں پڑیں، بڑے بڑے لیدروں کے سر پھٹے اور بڑے بیانے پر جیلیں بھری گئیں۔ اگرچہ تحریک آزادی کے کارکنوں نے کوئی تھہ دنبیں کیا!

## (۶) مسلح تصادم (Armed Conflict)

اقدام کے بعد چھٹا اور آخری مرحلہ براہ راست تصادم کا ہو گا۔ یعنی موجودہ نظام اور اس کے محافظوں کے ساتھ انقلابی کارکنوں کا باقاعدہ جسمانی تصادم ہو گا۔ کیونکہ جب آپ نے Active Resistance شروع کر دی ہے تو گویا کہ آپ نے پورے سسٹم کو براہ راست چینچ کر دیا ہے، لہذا اب موجودہ اختصاری نظام انقلابی تحریک کے کارکنوں کو مکمل طور پر کچلنے کے لئے اقدام کرے گا۔ اس مرحلے پر انقلابی تحریک کا امتحان ہو گا۔ اگر تحریک نے انقلاب کے لئے تیاری ٹھیک طور سے کی تھی، کارکنوں کی تنظیم و تربیت درست نجح پر کی گئی تھی، صحیح وقت پر اقدام کا فیصلہ کیا تھا تو یہ تحریک کامیاب ہو جائے گی۔ اور اگر تیاری کے بغیر ہی اقدام کر دیا، ابھی نہ تو انقلابی کارکنوں کی معتقد بہ تعداد موجود تھی، نہ ابھی ان کی تربیت تھی، نہ وہ listen and obey کے خواگر تھے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہو گا کہ یہ تحریک ناکام ہو جائے گی۔ گویا تصادم کے اس مرحلے کے بعد تو تخت یا تختہ والی بات ہو گی، کوئی درمیانی بات نہیں ہو گی۔ اس تصادم کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں، وہ میں بعد میں بیان کروں گا۔

طریق انقلاب کے ضمن میں میں نے اب تک جو کچھ عرض کیا ہے اس کو اگر آپ شعری انداز میں سمجھنا چاہیں تو علامہ اقبال کے ایک فارسی شعر کے حوالے

”توحید“ جس کے بارے میں اقبال کہتا ہے۔

زندہ قوت تھی زمانے میں یہ توحید کبھی  
اور اب کیا ہے، فقط اک مسئلہ علم کلام!

جو کبھی انقلابی نظریہ تھا وہ آج ایک مذہبی بحث وزراع کا موضوع بن کر رہ گیا ہے۔  
اب اس نظریہ کے جوان انقلابی تائج و مضرات ہیں ذرا ان پر ایک نظر ڈال لیں۔

### (۱) انسانی حاکمیت کی بجائے خلافت

میں نے عرض کیا تھا کہ انقلابی نظریہ کی سب سے پہلی خصوصیت یہ ہونی چاہئے کہ وہ موجوداً وقت نظام کی جڑوں پر یقینہ بن کر گرے۔ نظریہ توحید کے متضمنات میں سب سے پہلی بات اللہ کی حاکمیت ہے۔ اللہ کی زمین پر نہ کوئی انسان حاکم ہے اور نہ کوئی قوم حاکم ہے۔ *إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلّٰهِ*

سروری زیبا فاظ اُس ذات بے ہمتا کو ہے  
حکمران ہے اک وہی باقی بتناں آزری!

نظریہ توحید انسانی حاکمیت کی ہر شکل میں نفی کرتا ہے۔ انسانی حاکمیت نہ تو فرد واحد کی بادشاہت کی شکل میں قابل قول ہے نہ کسی قوم کی دوسری قوم پر حاکمیت کی شکل میں، جیسے انگریز ہم پر حکمران ہو گیا تھا۔ اور نہ ہی عوام کی حاکمیت جائز ہے۔ حاکمیت (Sovereignty) کا حق صرف اللہ تعالیٰ کا ہے اور انسان کے لئے خلافت ہے۔ حاکمیت کی دوسری تمام صورتیں شرک ہیں اور دو ر حاضر میں حاکمیت جمہوری (Popular Sovereignty) کا تصور بدترین شرک ہے۔ شارع (قانون ساز) صرف اللہ تعالیٰ ہے اور رسول اُس کے نمائندے ہیں۔ اب بتائیے اس سے بڑا کوئی انقلابی نعرہ ہو گا؟

### (۲) ملکیت کی بجائے امانت

توحید کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ ہر شے کا مالک حقیقی اللہ ہے۔ یہ انقلابی نعرہ

پہلے درویشی کی روشن اختیار کرو اور اپنا کام کرتے رہو۔ دعوت و تبلیغ میں لگے رہو۔ کوئی پاگل کہے یا کوئی گالی دے تو اُسے جواب میں دعا دو۔ یہ درویشی ہے۔ گویا بدهمت کے بھکشو بنے ہوئے ہیں۔ مارا جا رہا ہے تو جواب نہیں دے رہے ہیں۔ اور جب تیار ہو جاؤ، یعنی تعداد بھی کافی ہو، ٹریننگ بھی صحیح ہو، ڈسپلن کے بھی پابند ہو جائیں اور ہر شے قربان کرنے کو تیار ہوں تو اب اپنے آپ کو سلطنتِ جم کے ساتھ ٹکراؤ۔ اس ٹکراؤ کے بغیر انقلاب نہیں آتا۔ وعظ سے انقلاب نہیں آیا کرتا۔ ٹکراؤ میں جائیں جائیں گی، خون دینا پڑے گا۔ ٹھنڈے ٹھنڈے انقلاب نہیں آتا۔ یہ چھ مرحل جو میں نے گنوائے، یہ کسی ملک کے اندر انقلاب کی تکمیل کے مراحل ہیں۔

### (۷) تصدیر انقلاب

مذکورہ بالا چھ مرحل ج کے علاوہ انقلاب کا ایک ساتواں مرحلہ بھی ہے اور یہ ایک حقیقی انقلاب کا test litmus ہے۔ ایک حقیقی انقلاب کبھی بھی اپنی جغرافیائی یا قومی و ملکی اور حکومتی سرحدوں کے اندر محدود نہیں رہتا۔ کیونکہ اگر انقلابی نظریہ زوردار، قوی، مضبوط، مدلل اور مبرہن ہے تو یہ لوگوں کے قلوب و اذہان کو اپنی گرفت میں لے گا۔ چنانچہ حقیقی انقلاب لا زما برآمد (export) ہوتا ہے، وہ اپنی حدود میں نہیں رہ سکتا۔

یہ ہے انقلابی عمل کا وہ خاکہ جسے میں نے سیرت نبویؐ سے اخذ کیا ہے، لیکن دینی اصطلاحات سے صرف نظر کرتے ہوئے عمومی انداز میں آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اب ہم اس خاکے میں سیرت نبویؐ اور انقلاب نبویؐ کا رنگ بھرتے ہیں۔

**رسول ﷺ کا انقلابی نظریہ اور اس کے تقاضے**  
محمد رسول اللہ ﷺ کا انقلابی نظریہ کیا ہے؟ ایک لفظ میں بیان کریں تو وہ ہے

خرچ کریں۔

### ۳) کامل معاشرتی مساوات

سمائی سطح پر توحید کا تقاضا یہ ہے کہ بینایادی طور پر پیدائشی طور پر تمام انسان برابر ہیں، کوئی اونچا نہیں، کوئی نیچا نہیں۔ اس ضمن میں انجام جی ویلز کی گواہی آپ کو بتا چکا ہوں کہ ”انسانی اخوت“ مساوات اور حریت کے وعظات تو پہلے بھی بہت کہے گئے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ تاریخِ انسانی میں پہلی بار ان بینایادوں پر ایک معاشرہ قائم کیا ہے مود (صلی اللہ علیہ وسلم) نے۔ اسلامی معاشرے میں اگر کوئی اونچی نیچی ہے تو وہ ان کمالات کی بینایاد پر ہے جو آپ نے از خود حاصل کئے ہیں۔ آپ نے علم حاصل کیا تو آپ اونچے ہو گئے، آپ کی عزت کی جائے گی۔ آپ نے تقویٰ کی روش اختیار کی، روحانی مقام حاصل کیا، اب آپ کی عزت کی جائے گی۔ ﴿إِنَّ أَكْرَمَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْهَلُوكُمْ﴾ ”اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ باعزت وہ ہے جو تم میں سب سے بڑھ کر متqi ہو۔“ پیدائشی طور پر تمام انسان برابر ہیں۔ شودر ہو یا بڑھن، کالا ہو یا گورا، مرد ہو یا عورت، کوئی فرق نہیں۔ مرد اور عورت کے درمیان فرقِ انتظامی اعتبار سے ہے۔ جیسے کسی ملکے میں ایک انچارج اور ایک باہر کھڑے ہوئے قاصد میں بھیت انسان بینایادی طور پر کوئی فرق نہیں، لیکن منصب کے اعتبار سے سر براد شعبہ کا منصب اونچا ہے، قاصد کا نیچا ہے۔ یہ انتظامی معاملہ ہے۔

ہمارے ہاں پٹھانوں میں بالعموم یہ مساوات نظر آتی ہے کہ سب ایک سا لباس پہنتے ہیں۔ بڑے سے بڑا زمیندار ہو یا اس کا ملازم ہو، دونوں کا لباس ایک ہی طرح کا ہو گا، اور یہ کہ کھانا بھی دونوں ساتھ بیٹھ کر کھائیں گے۔ میں نے سنا ہے کہ عربوں کے ہاں بھی یہ مساوات قائم ہے اور نیچے نامم پر ایک فنڈر کا بواب

سیاسی نظام کی جزوں پر نیشے کی طرح گرتا ہے۔ کوئی شخص کسی شے کا مالک نہیں ہے، نہ انفرادی طور پر نہ قومی طور پر۔ اس طرح سرمایہ داری کی بھی نفی ہو گئی اور کیوں نہ کی بھی۔ مالک صرف وہ ہے: ﴿هُنَّا مَافِي الْمُلْوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ ”اسی کا ہے جو کچھ آسانوں اور زمین میں ہے۔“ ہر شے کا مالک وہی ہے اور انسان کے پاس جو کچھ ہے وہ امانت ہے۔

ایں امانت چند روزہ نزدِ ماست

در حقیقتِ مالک ہر شے خدا سست!

میں اپنے جسم کا بھی مالک نہیں ہوں، میرا یہ جسم بھی اللہ کی ملکیت ہے، انا اللہ وانا الیہ راجعون۔ یہ ہاتھ پاؤں یہ آنکھیں، یہ دماغ سب کچھ میرے پاس اللہ کی امانت ہے۔ اس نے مجھے کوئی گھردے دیا ہے تو وہ بھی اس کی امانت ہے، اولادوی ہے تو وہ بھی اسی کی امانت ہے۔ چنانچہ ملکیتِ تامہ اسی کے لئے ہے۔ ہم مالک و مختار نہیں ہیں کہ جو چاہیں کرتے پھریں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا کہ ”اے شعیب! کیا تمہاری نمازِ تھہیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم ان سارے معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے باب پر دادا کیا کرتے تھے؟ اور یہ کہ ہم کو اپنے مال میں اپنی مرضی کے مطابق تصرف کرنے کا اختیار نہ ہو؟“ سرمایہ دار کا موقف یہ ہوتا ہے کہ یہ میرا مال ہے، میں اسے جیسے چاہوں تصرف میں لاوں، خواہ اس سے سودی کا رو بار کروں یا کسی کو سود پر قرضہ دوں۔ اس لئے کہ وہ اپنے آپ کو سرمائے کا مال سمجھتا ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو امین سمجھیں گے تو آپ کا نقطہ نظر کیسے مختلف ہو گا۔ پھر آپ اپنا ہاتھ بھی وہیں استعمال کریں گے جہاں اللہ کی اجازت ہے۔ آپ اپنے پاؤں سے بھی اسی راستے پر چلنا چاہیں گے جس پر اللہ چاہتا ہے کہ آپ چلیں۔ آپ کا مال وہیں خرچ ہو گا جہاں اللہ چاہتا ہے کہ آپ

بھی دکھتی ہیں، لیکن میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ اور اس پر سارا مجعع کھل کھلا کر ہنس پڑا کہ یہ چلے ہیں انقلاب لانے کے لئے اور یہاں کے ساتھی ہیں۔ پھر آپ ﷺ کو حکم ہوا: ﴿فَنَاصِدْ غَيْرَ مُؤْمِنٍ عَنِ الْمُشْرِكِينَ﴾ (الحج: ٩٢) ”اے نبی! جس چیز کا آپ کو حکم ہوا ہے اسے ڈنکے کی چوت بیان کیجئے اور مشرکین کی ذرا پرواہ کیجئے۔“ چنانچہ آپ ﷺ نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر واصبا عا کا نعرہ لگایا۔ پھر عکاظ اور دوسرا میلیوں میں جا کر دعوت دی۔ حج کے اجتماعات میں لوگوں کے سامنے دعوت رکھی۔ الغرض جو طریقہ بھی ممکن تھا اسے استعمال کیا۔ اُس وقت نہ تو لا وڈا سپیکر تھا نہ کوئی میلی ویژن تھا۔ الیٹرائک اور پرنٹ میڈیا بھی نہیں تھے۔ نہ کوئی چھاپ خانہ تھا، نہ کتابیں نہ رسالے نہ اخبار! لیکن جو بھی میسر ذرائع اور وسائل تھے انہیں آپ نے استعمال کیا۔

## اسلامی انقلابی تنظیم اور اس کی اساسات

جو لوگ محمد رسول اللہ ﷺ پر ایمان لے آئے، انہیں آپ نے منظم کیا اور ان کی تربیت کی۔ اس تنظیم کی سب سے پہلی بنیاد یہ تھی کہ جن لوگوں نے مان لیا کہ آپ ﷺ کے نبی ہیں، آپ ﷺ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ اللہ کی جانب سے کہہ رہے ہیں یا آپ پُر وحی آئی ہے تو پھر ان کے لئے آپ ﷺ کے حکم سے سرتاہی کیسے ممکن ہے؟ کیا نبی کی بات سے بھی اختلاف کیا جا سکتا ہے؟ اس سے زیادہ مضبوط جماعت کا آپ تصویر نہیں کر سکتے جو نبوت کی بنیاد پر قائم ہو۔ آج کی دنیا میں بھی آپ کو مثال ملے گی کہ سچی نبوت تو تنظیم کی بہت بڑی بنیاد ہے ہی، جھوٹی نبوت بھی بہت بڑی بنیاد ہے۔ غلام احمد قادریانی کی جھوٹی نبوت کی بنیاد پر جو جماعت چل رہی ہے ذرا اس کا اندازہ کیجئے کہ کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ اور ان کا لا ہوری فرقہ، جس نے غلام احمد قادریانی کو نبی نہیں مانا، وہ منتشر ہو کر ختم ہو گیا۔ تو

(دریان) اور سوّاق (ڈرائیور) اس کے ساتھ ایک میز پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ مرد اور عورت میں بھی بحیثیت انسان کوئی فرق نہیں، صرف انتظامی اعتبار سے فرق ہے۔ ازروے الفاظ قرآنی: ﴿أَلَّا إِنَّ جَاهَنَّمَ قَوْمُونَ عَلَى النَّسَاءِ﴾ (النساء: ٣٢) ”مرد عورتوں پر قوام ہیں“۔ یعنی مرد کو خاندان کے ادارے کے سربراہ کی حیثیت حاصل ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مرد افضل ہے اور عورت کمتر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی عورت اپنے اخلاق اور کردار کے اعتبار سے کروڑوں مردوں سے اوپر چلی جائے۔ کتنے مرد ہوں گے جو حضرت مريم، حضرت آسمیہ، حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ اور حضرت فاطمہ (رضی اللہ عنہن جمیعن) کے مقام کو اس طرح دیکھیں گے جیسے آپ آساناً کو دیکھتے ہیں۔ تو نظریہ توحید کے یہ تین نتیجے ہیں جو سیاسی سطح پر معاشری سطح پر نکلتے ہیں۔ حاکمیت مطلقہ اللہ کے لئے ملکیت مطلقہ اللہ کے لئے اور کامل مساوات انسانی۔

رسول اللہ ﷺ نے اس نظریہ توحید کی تبلیغ مکہ کی گلیوں میں گھوم پھر کر کی۔ آپ نے لوگوں کو پکارا: یا ایمھا الناس فُلُوُ الْإِلَهِ إِلَّا اللَّهُ تَعَالَى اے لوگو! کہو اللہ کے سوا کوئی معبد نہیں، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔“ ابتدائی دعوت میں ابھی آپ نے اپنی رسالت کا ذکر شامل نہیں کیا، پورے کا پورا ذور (emphasis) توحید پر ہی رکھا۔ اس انقلابی نظریے کی دعوت و اشاعت میں آپ نے اُس وقت کے جو بھی ذرائع میسر تھے، انہیں استعمال کیا۔ آپ نے گھر گھر جا کر دعوت توحید پیش کی۔ پھر دو مرتبہ اپنے خاندان والوں (بنوہاشم) کو کھانے پر بلا کر دعوت پیش کی۔ ایک مرتبہ تو لوگوں نے بات سنی ہی نہیں، شور مچا دیا۔ دوسرا مرتبہ بات سن لی لیکن سب کے سب خاموش بیٹھے رہے جیسے سانپ سونگھے گیا ہو۔ حاضرین میں سے صرف حضرت علی ص کھڑے ہوئے جو پہلے ہی ایمان لاحکے تھے۔ انہوں نے کہا اگرچہ میری ٹانکیں پتلی ہیں، اگرچہ میں سب سے چھوٹا ہوں، اگرچہ میری آنکھیں

جباں کہیں بھی ہوں، اللہ کے معاملے میں کسی ملامت گر کی ملامت کا خوف نہیں کریں گے۔ ہماری جورائے ہوگی، ہمارے نزدیک جوبات حق ہوگی وہ ضرور کہہ دیں گے۔ اس لئے زبانیں بنندھیں کریں گے کہ لوگ کہیں گے کہ لوگی انہوں نے کیا کہہ دیا۔ یہ ہے آرگنائزیشن کی دوسری بنیاد۔ آپ بھی تجزیہ کر لیجئے کہ کیا حضور ﷺ کو اس کی ضرورت تھی؟ کیا آپ پُر ایمان لانا ہی کافی نہیں تھا کہ آپ کی ہربات مانی ہے۔ ازروئے الفاظ قرآنی: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيَطَّاَبِذِنِ اللَّهِ﴾ (النساء: ۲۳) ”ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر اس لئے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے۔“ اس کے باوجود آنحضرت ﷺ نے بیعت لی تو یہ دراصل آئندہ کے لئے رہنمائی کے لئے تھی!

غزوہ بدر سے پہلے حضور ﷺ نے ایک مجلس مشاورت منعقد کی تھی کہ قریش کا ایک قافلہ شمال سے مالی تجارت سے لداپندا آ رہا ہے جس کے ساتھ صرف چالیس یا پچاس محافظ ہیں، جبکہ کیل کائنے سے لیس ایک مسلسل شکر جنوب سے آ رہا ہے اور اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ان دو میں سے ایک پر تمہیں ضرور فتح عطا فرمادے گا۔ بتاؤ، کدھر چلیں؟ کچھ ہم جیسے کمزور لوگ بھی موجود تھے، انہوں نے کہا کہ حضور! قافلے کی طرف چلیں، تھوڑے سے آدمی ہیں، ان پر ہم آسانی سے قابو پالیں گے، مال غنیمت بہت ہاتھ آ جائے گا، اور ہتھیار بھی ملیں گے، جن کی ہمیں اشد ضرورت ہے۔ لیکن حضور ﷺ مزید مشورہ طلب فرماتے رہے۔

تب صحابہ کرامہ نے اندازہ کیا کہ حضور ﷺ کا اپنا رجحان طبع کچھ اور ہے۔ چنانچہ اس مرحلے پر پہلے مہاجرین نے تقریریں کیں کہ حضور! آپ ہم سے کیا پوچھتے ہیں، جو آپ کا حکم ہو، ہم حاضر ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق ص اور حضرت عمر فاروق ص نے تقریریں کیں، لیکن حضور ﷺ نے کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ محسوس ہوا تھا کہ جیسے حضور ﷺ کسی خاص بات کے منتظر ہیں۔ مہاجرین میں سے ہی

مضبوط ترین جماعت جو دنیا میں ہو سکتی ہے وہ نبوت کے دعویٰ کی بنیاد پر ممکن ہے۔ چنانچہ محمد رسول اللہ ﷺ کی پنجی نبوت اور آخری نبوت کی بنیاد پر جو جماعت بنی وہ دنیا کی مضبوط ترین جماعت تھی، جس کے پارے میں قرآن حکیم میں فرمایا گیا: ﴿مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ﴾ ”اللہ کے رسول محمد اور وہ لوگ جوان کے ساتھ ہیں۔“ اس جماعت میں کسی نے رسول اللہ ﷺ کو جماعت کا صدر منتخب نہیں کیا تھا بلکہ آپ ﷺ نبی ہونے کی حیثیت سے اور داعی ہونے کی حیثیت سے خود بخود امیر تھے۔ آپ ﷺ کے ساتھی ”سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا“، (ہم نے سنا اور مانا) کے اصول پر کاربند تھے۔ البتہ حضور ﷺ نے مستقبل کے لئے ایک مثال قائم کرنے کے لئے کہ آئندہ اگر اسی انقلابی جدوجہد کا مسلمانوں نے آغاز کیا تو اس کے لئے جماعت کیسے بنے گی، بیعت کا سلسلہ شروع کر دیا۔

حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے مروی یہ حدیث ملاحظہ کیجئے جو بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے اور سنہ کے اعتبار سے اس سے زیادہ صحیح حدیث ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں۔ بایعنا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ”ہم نے بیعت کی اللہ کے رسول ﷺ سے۔“ عَلَى أَسْمَعِ وَالظَّاهِرِ ”اس بات پر کہ آپ کا ہر حکم سنیں گے اور اطاعت کریں گے،“ فِي الْعَسْرِ وَالْيُسْرِ ”میکنی اور سختی میں بھی اور آسانی میں بھی،“ وَالْمُشْطِ وَالْمُكْرَهِ ”طبعت کی آمادگی کی صورت میں بھی اور طبیعت پر جبر کرنا پڑا تب بھی،“ وَعَلَى أَخْرِهِ عَلَيْنَا“ اور چاہے آپ دوسروں کو ہم پر ترجیح دے دیں،“ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ نے ایک نووار دنو جوان کو ہم پر امیر کیوں بنا دیا؟ ہم آپ کے پرانے خدمت گار اور جان ثار ساتھی ہیں، ہم پر اس نو جوان کو کیوں امیر بنادیا؟ آپ کا اختیار ہو گا جو چاہیں کریں۔ وَعَلَى أَنَّا نَنْأِيَعُ الْأَمْرَ آخلاء،“ اور جس کو بھی آپ امیر بنادیں گے اس سے جھگڑیں گے نہیں،“ - وَعَلَى أَنْ نَقْوَلَ بِالْحَقْقِ أَبْنَامَا كَتَلَ أَنْجَافَ فِي اللَّهِ لَوْمَةً لَا يَعْمِمُ اور یہ کہ ہم حق بات ضرور کہیں گے

رسول ہونے کی حیثیت سے مطاع تھے۔ لیکن اس کے باوجود آپ نے بیعت کیوں لی؟ اس لئے کہ آئندہ کوئی مسلمان جماعت بنانے کے لئے انگریزوں سے رو سیوں سے یا جرمنوں سے کوئی طریقہ مستعار نہ لیتا پھرے، بلکہ جماعت بنانے کے لئے وہ بہیاد اختیار کرے جو میں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔

## انقلابی تربیت کا نبوی منہاج

تربیت کے لئے میں نے چار عنوانات مقرر کئے تھے۔ اولاً یہ کہ انقلابی فکر متحضر رہے۔ رسول اللہ ﷺ کے انقلابی فکر کا منبع و سرچشمہ قرآن تھا اور اس منبع پر اب جو بھی دعوت اٹھے گی اس کا منبع و سرچشمہ بھی یہی قرآن ہو گا کہ اسے پڑھتے رہو تا کہ تمہارا فکر تازہ رہے۔ اس کے لئے اجتماعی مذاکرہ بھی کرو۔ مل کر بیٹھو اور قرآن پڑھو، سیکھو اور سکھاؤ۔ اسی سے تمہارا فکر تراویز رہے گا۔

ثانیاً سمع و طاعت — جس کا سب سے بڑا امتحان یہی تھا کہ چاہے تمہارے نکلوں کے کردیئے جائیں تم نے ہاتھ نہیں اٹھانا۔ دیکھئے ایک شخص کو جب یہ معلوم ہو کہ یہ مجھے مار دیں گے تو وہ desperate معلوم ہو کر دوچار کو مار کر ہی مرے گا۔ بلی کو اگر آپ کارنر (Corner) کر لیں اور اسے اندازہ ہو جائے کہ اب میرے لئے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے تو وہ سیدھی آپ کی آنکھوں پر چھٹے گی۔ لیکن یہاں اپنی مدافعت میں بھی ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی۔ حضرت خباب بن ارشد کے سامنے دیکھتے ہوئے انگارے بچھائے گئے، اور ان سے کہا گیا کہ گرتا اُتار کر ان پر لیٹ جاؤ۔ آپ لیٹ گئے۔ پیٹھ کی کھال جلی، چربی پکھلی تو اس سے وہ انگارے ٹھنڈے ہوئے۔ جسے یہ نظر آ رہا ہو کہ یہ مجھے انگاروں پر بھوننے والے ہیں، زندہ کے کباب بنانے والے ہیں، وہ دوچار کو مار کر ہی مرتا ہے، یا کم از کم ادھر اُدھر ہاتھ پاؤں مارنے کی کوئی کوشش کرتا ہے، لیکن یہاں اس کی اجازت نہیں

حضرت مقداد بن اسود صنے کھڑے ہو کر عرض کیا کہ ”حضور جو آپ کا ارادہ ہو بسم اللہ کبھی“، ہمیں حضرت موسیٰؑ کے ساتھیوں پر قیاس نہ کبھی جنہوں نے اپنے نبی سے یہ کہہ دیا تھا کہ ”اے موسیٰؑ آپ اور آپ کا رب دونوں جائیں اور جا کر جنگ کریں، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں“۔ کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ آپؐ کو ہمارے ذریعے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمادے۔ لیکن حضور ﷺ اب بھی انتظار کی کیفیت میں تھے۔

اب حضرت سعد بن معاذ ص کو خیال آیا کہ رسول اللہ ﷺ کا روانے سخن دراصل انصار کی جانب ہے۔ بیعت عقبہ ثانیہ میں طے یہ ہوا تھا کہ اگر قریش آپ ﷺ کا پیچھا کرتے ہوئے مدینے پر حملہ آور ہوئے تو ہم آپؐ کی اس طرح حفاظت کریں گے جیسے اپنے اہل و عیال کی کرتے ہیں۔ لیکن صورت واقعہ یہ تھی کہ قریش نے مدینے پر حملہ نہیں کیا تھا اور حضور ﷺ خود باہر نکل کر تصاصم کا آغاز کرچکے تھے، لہذا انصار اس معاہدے کی رو سے مدینہ سے باہر نکل کر جنگ کرنے کے پابند نہیں تھے۔ حضرت سعدؓ کو فوراً خیال آ گیا کہ ہونہ ہو حضور ﷺ ہماری تائید کے منتظر ہیں۔ چنانچہ حضرت سعدؓ نے کھڑے ہو کر عرض کیا: اے اللہ کے رسول! معلوم ہوتا ہے آپؐ کا روانے سخن ہماری جانب ہے۔ اب دیکھئے کس قدر عمدہ جملہ کہا: فَإِنَّا آمَنَّا بِكَ وَصَدَّقْنَاكَ لِيَعْنَى حضُور! ہم آپؐ پر ایمان لا چکے ہیں اور ہم نے آپؐ کی تصدیق کی ہے۔ ہم نے آپؐ کو اللہ کا نبی اور رسول مانا ہے۔ اب ہمارا اختیار کہاں رہا؟ آپؐ جو بھی حکم دیں گے، سر آنکھوں پر! آپؐ ہمیں چہاں بھی لے جانا ہو لے چلے۔ خدا کی قسم، اگر آپؐ ہمیں اپنی سواریاں سمندر میں ڈالنے کا حکم دیں گے تو ہم ڈال دیں گے.....!

تو حضور ﷺ کو کسی کی بیعت کی ضرورت نہیں تھی، آپ ﷺ تو اللہ کے نبی اور

شان مرِ مؤمن با تو گویم چو مرگ آید قبسم بر لپ اوست!  
اگر آپ نے کروڑوں روپیہ سوئزر لینڈ کے بینکوں میں جمع کر رکھا ہوا اور آپ سے  
کہا جائے کہ ”نکل جاؤ ملک سے“ تو آپ کو کوئی افسوس ہو گا؟ لیکن اگر ملک سے  
باہر آپ کا کچھ نہیں نہ کوئی جانے والا ہے، تب کہا جائے نکل جاؤ تو آپ کو یقیناً  
تشویش ہو گی۔ یہ دراصل عقیدہ آخرت ہی ہے جو آج دنیا کی سمجھ میں نہیں آ رہا  
کہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے کہ جانیں دینے کے لئے اس طرح آمادہ ہیں۔ انہوں  
نے فلسطین، کشیر، چینپنا اور افغانستان میں مسلمانوں کا یہ جذبہ دیکھ لیا ہے۔ یہ سب  
عقیدہ آخرت پر یقین کی علامتیں ہیں۔

ایک زمانے میں جب مولانا مودودی مرحوم کو سزا موت ہوئی تھی میں  
اُس وقت اسلامی جمیعت طلبہ کا ناظم اعلیٰ تھا۔ میں نے ”عزم“ کے نائل پر یقین  
شائع کی تھی اور پھر جیل میں مولانا کو سمجھی تھی۔

وہ وقت آیا کہ ہم کو قدرت ہماری سعی و عمل کا پھل دے  
 بتا رہی ہے یہ ظلمت شب کہ صبح نزدیک آ رہی ہے  
 ابھی ہیں کچھ امتحان باقی، فلاکتوں کے شان باقی  
 قدم نہ پیچھے ہٹیں کہ قسمت ابھی ہمیں آزمائی ہے  
 سیاہیوں سے حزیں نہ ہونا، غنوں سے اندوہ گیں نہ ہونا  
 انہی کے پردے میں زندگی کی نئی سحر جگگا رہی ہے  
 رئیس اہل نظر سے کہہ دو کہ آزمائش سے جی نہ ہاریں  
 جسے سمجھتے تھے آزمائش وہی تو بگڑی بنا رہی ہے!  
 یہ رئیس امر ہوئی کے اشعار تھے۔ میں نے رئیس کی اضافت کے ساتھ یہ  
 اشعار ”رئیس اہل نظر“ کی خدمت میں پیش کئے۔  
 نبی اکرم ﷺ کے انقلاب میں روحانی تربیت کو بھی انتہائی اہمیت دی گئی۔

تحقیقی۔ میرے نزدیک سمع و طاعت کا اس سے بڑا کوئی مظہر ممکن ہی نہیں۔

ثالثاً۔۔۔ اپنی جان، مال، تن، من، دھن، اولاد، غرض ہر شے اللہ کی راہ میں  
 خرچ کر دو۔ ویسے تو دنیاوی انقلابات میں بھی لوگوں نے یہ سب کام کئے ہیں۔  
 کمیونسٹ انقلاب نہیں آ سکتا تھا جب تک کہ لوگ جانیں نہ دیتے اور لوگوں نے  
 ساری سختیاں نہ بھیلی ہوتیں۔ لیکن مسلمان کے لئے اپنی جان اللہ کی راہ میں پیش  
 کرنا اتنا آسان ہے کہ دوسروں کو اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ اس لئے کہ اس کا  
 ایمان آخرت پر ہے اور اس کے نزدیک اصل زندگی آخرت کی ہے۔ الہذا وہ اگر  
 اپنا سب کچھ اللہ کی خاطر لگادے، کھپا دے تو اسے گھاٹا کس اعتبار سے ہے؟ وہ تو  
 سوچتا ہے کہ مجھے آخرت میں اس کا کئی گناہ مل جائے گا، سات سو گناہ مل جائے گا،  
 ہزار گناہ مل جائے گا، تو اس معاملے میں میرا کوئی نقصان نہیں ہے۔ آدمی کو آخرت  
 پر جتنا یقین ہو گا اتنا ہی آدمی اپنے آپ کو invest کر دے گا۔ میں اپنی جمع  
 پونچی بینک میں بچا کر رکھوں تو مجھ سے زیادہ پاگل کون ہو گا؟ یہ مجھے زیادہ سے  
 زیادہ دس یا پندرہ فیصد منافع دے دیں گے، لیکن اللہ کا بینک کھلا ہوا ہے جو سات  
 سو گناہ دیتا ہے۔ تو یہاں بچا بچا کر رکھنا یقیناً بے وقوفی ہے۔ جیسے حضرت مسیح نے  
 کہا تھا: زمین پر جمع نہ کرو یہاں کیڑا بھی خراب کرتا رہتا ہے، چوری بھی ہوتی ہے،  
 ڈاکہ بھی پڑتا ہے۔ آسمان پر جمع کرو جہاں نہ کیڑا خراب کر سکے، جہاں چوری نہیں،  
 ڈاکہ نہیں، اور میں تم سے سچ کہتا ہوں جہاں تمہارا مال ہو گا وہیں تمہارا دل بھی ہو  
 گا۔۔۔ تم نے مال اگر یہاں جمع کیا تو دل یہیں اٹکا رہے گا۔ جب فرشتے جان  
 نکالنے کے لئے آئیں گے تو سوائے حسرت و افسوس کے کچھ نہ کرسکو گے۔ حدیث  
 میں آیا ہے کہ فرشتے ایسے جان نکالیں گے جیسے گرم سلاح کے اوپر سے کباب کھینچا  
 جاتا ہے۔ اگر آپ کی جمع پونچی اللہ کے بینک میں جمع ہے تو آپ کا دل بھی وہیں  
 اٹکا ہو گا۔ فرشتہ آئے گا تو آپ کے لبوں پر مسکراہٹ ہو گی۔

میں نے عرض کیا تھا کہ صبر محن (Passive Resistance) کی ابتدا داعی کی کردار کشی سے ہوتی ہے کہ اس کی قوتِ ارادی کو ختم کر دیا جائے۔ تین سال تک تہا حصہ میں اس ایڈ ارسانی کا ہدف بننے رہے ہیں۔ اور یہ زبانی ہوتی رہی کہ پاگل ہو گئے ہیں، مجذون ہو گئے ہیں۔ ہم انہیں کہتے تھے مت جایا کرو گار حرامیں اور وہاں کئی کئی دن نہ رہا کرو وہاں پر کوئی نہ کوئی آ سیب سوار ہو گیا ہے، ان پر کوئی جن آ گیا ہے۔ کبھی کہا جاتا کہ انہوں نے شاعری شروع کر دی ہے، یا یہ کہ یہ ساحر بن گئے ہیں یا مسحور ہو گئے ہیں۔ یہ تمام تر آنحضرت میں کردار کشی کرنے کی کوششیں تھیں۔ اور یہ مسحیت کے اس سے حصہ میں کوئی نہیں ہوتا تھا۔ قرآن کی گواہی ہے: ﴿وَلَقَدْ نَعَمْ أَنَّكَ يَصْنِعُ صَدْرَكَ بِمَا يَقُولُونَ﴾ (الجح: ٩٦) ”اے نبی ہمیں معلوم ہے کہ جو با تیں یہ کہہ رہے ہیں ان سے آپ کا سینہ پھٹتا ہے۔“ ان سے آپ کو صدمہ ہوتا ہے، آپ کو اپنے سینے میں گھٹن محسوس ہوتی ہے کہ بھی ہیں جو مجھے الصادق اور الامین کہا کرتے تھے، آج یہ مجھے ساحرا اور کذاب کہہ رہے ہیں۔ مجھ پر جھوٹ کا الزام لگا رہے ہیں۔ مجھ پر دھوکے کا الزام لگا رہے ہیں کہ کسی سے ڈکٹیشن لے کر ہم پر دھونس جاتا ہے کہ یہ مجھ پر اللہ کی وحی آ گئی ہے۔ لیکن اس کیفیت میں آپ ﷺ کے لئے حکم یہ تھا کہ ﴿وَأَخِرَ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَأَخْبِرْ حُمْرَاجِنِيَّا﴾ (المزم) ”جو با تیں یہ لوگ بنارہے ہیں ان پر صبر کیجئے اور بھلے طریقے سے ان کو چھوڑ دیجئے“، خوبصورتی کے ساتھ اپنا رخ موڑ لیجئے اور ان کو چھوڑ دیجئے، کسی اور سے بات کیجئے۔ لیکن علیحدگی لٹھ مار کر رہا ہو۔ ہو سکتا ہے جو شخص آج بات نہیں سن رہا، کل سننے پر آ مادہ ہو جائے۔

تین سال کے بعد مشرکین کو محسوس ہوا کہ یہ تو چنان کی طرح کھڑے ہیں اور دو با تیں بہت خطرناک ہو گئی ہیں۔ ایک تو ہماری نوجوان نسل ان کے گرد جمع ہو گئی

روحانیت پیدا کرنے کے سب سے بڑے ذریعے قرآن حکیم کو دلوں میں اتارا گیا، اس سے سینوں کو منور کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ نفس کے تقاضوں کی مخالفت کرائی گئی۔ نیند بہت عزیز ہے، اللہ کی راہ میں جاگتے رہنے کی ترغیب دلائی گئی اور تہجد میں قرآن کو اپنے اندر اتارنے کا حکم دیا گیا:

﴿يَا يَحْمَدُهُ الْمُرْتَبِ مِنْ أَقْرَبِ الْأَنْوَارِ قَلْبِيَّاً بِقُضَفَةٍ أَوْ أَنْفُسٍ مِنْهُ قَلْبِيَّاً أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتَلَ الْفُرْقَانَ تَرَتَلْيَا إِنَّا سَنَقْنَى عَلَيْكَ قَوْلًا قَلْبِيَّاً إِنَّ نَاسَ شَجَرَةَ الْأَنْوَارِ هُنَّ أَشَدُ وَطَنَاءً أَقْوَمُ قَلْبِيَّاً فَ﴾ (المزم)

”اے اوڑھ لپیٹ کرسونے والے! رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو مگر کم، آ دھی رات، یا اس سے کچھ کم کرو! یا اس سے کچھ زیادہ بڑھا دو، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ ہم تم پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں۔ درحقیقت رات کا اٹھنا نفس پر قابو پانے کے لئے اور قرآن ٹھیک پڑھنے کے لئے زیادہ موزوں ہے۔“

قرآن تو ویسے ہی نور ہے، یہ دلوں کی تاریکیاں دور کر کے انہیں منور کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور رات کا جا گناہ نفس کو سکلنے میں بہت موثر ہے۔ تزکیہ نفس کے لئے جس تیسری شے کی ترغیب دی گئی ہے وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے۔ تو یہ ہے نظام محمد رسول اللہ ﷺ کی انقلابی تربیت کا۔ ہمارے ہاں بعد میں جو بھی خانقاہی نظام وجود میں آیا اس میں تربیت اور تزکیہ کے اسلوب اور انداز اپنے ہیں۔ ان کے مرافقے ان کے چلے اور ذکر کے طریقے اپنے ہیں۔ میں اس نظام کی بات نہیں کر رہا، سلوکِ محمدی کی بات کر رہا ہوں۔ وہ انقلابی تربیت جو رسول اللہ ﷺ نے صحابہ کرامؐ کی فرمائی اس کے عناصر ترکیبی میں نے بیان کر دیئے ہیں۔

**آنحضرت میں صبر محن کا مرحلہ**

دنوں عراق کی ابوغريب جیل میں قیدیوں پر تشدد کی تصویریں شائع ہوئی ہیں کہ قیدیوں کو برباد کر کے گلے میں رسی ڈال کر انہیں زمین پر گھسیٹا جا رہا ہے، حضرت بلاں کے ساتھ یہ معاملہ مکہ کی گلیوں کے اندر ہوا۔ انہیں نوکیلے پھرول والی زمین پر اس طرح گھسیٹا جاتا ہے جیسے مردہ جانور کی لاش گھسیٹی جاتی ہے۔ لوگ اس منظر کو دیکھتے اور سوچتے کہ بلاں کے ساتھ یہ سلوک کیوں ہو رہا ہے؟ کیا اس نے چوری کی ہے یا آقا کی بیٹی کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے؟ وہ جانتے تھے کہ ایسی کوئی بات نہیں۔ بلاں کا تصور صرف یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ عوام کی ہمدردی ایام مسلمانوں کے ساتھ بڑھ رہی تھیں۔

ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ دس نبوی تک حضور ﷺ پر کسی نے دست درازی نہیں کی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور ﷺ کو اپنے خاندان بنوہاشم کی پشت پناہی حاصل تھی۔ اگرچہ بنوہاشم سب ایمان نہیں لائے تھے بلکہ ان میں ابوطالب جیسے بدترین دشمن بھی تھے، لیکن بنوہاشم کے سردار ابوطالب تھے اور وہ حضور ﷺ کو تحفظ فراہم کر رہے تھے۔ قبائلی نظام میں قبیلے کا سردار جس کسی کو تحفظ دے دیتا، پورا قبیلہ اس کے پیچھے ہوتا۔ لہذا اگر شعب بنی ہاشم میں تین سال کی نظر بندی ہوئی ہے تو پورا خاندان بنی ہاشم اس میں شریک تھا، صرف مسلمان محصور نہیں تھے۔ ابوطالب سے کفار مکہ کا مطالبہ تھا کہ وہ محمد ﷺ کی پشت پناہی چھوڑ دیں تاکہ ہم ان سے نمٹ سکیں، لیکن انہوں نے اس سے انکار کر دیا۔ سن ۱۰ نبوی میں ابوطالب کا انتقال ہو گیا، اسی سال حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا بھی انتقال ہو گیا۔ حضور ﷺ جب باہر سے تھکے ہوئے گھر آتے، طبیعت میں انقباض ہوتا کہ آج فلاں شخص نے پاگل کہہ دیا، فلاں نے ساحر کہہ دیا، تو گھر میں ایک دلجوئی کرنے والی و فاشعار شریکہ حیات تو موجود تھی، وہ بھی اللہ نے اٹھا لی۔ ابوطالب

ہے۔ یہ بنو مسیہ کا چشم و چراغ عثمان ان کے حلقة ارادت میں شامل ہو گیا ہے۔ یہ مصعب بن عمیر اور سعد بن ابی وقاص جیسے نوجوان ان کے گرد جمع ہو گئے ہیں، اور اس سے بھی بڑھ کر خطرناک معاملہ یہ کہ ہمارے غلام ان پر ایمان لے آئے ہیں۔ یہ تو ایسا معاملہ ہے جیسے کہیں پر بارود کا سثور ہو اور وہاں پر چنگاری اڑ کر جا رہی ہو۔ ہمارے غلام اگر کہیں ہمارے خلاف کھڑے ہو گئے اور انہوں نے ہم سے ہمارے مظالم کے بد لے چکانے شروع کئے تو کس بھاؤ بکے گی؟ لہذا اب جسمانی تشدد و تعذیب (Physical Persecution) کا آغاز ہو گیا کہ انہیں مارو، انہیں بدترین جسمانی سزا میں دو، ان کو گھروں میں بند کر دو اور زنجروں میں جکڑ کر رکھو۔ کھانے کو کچھ مت دو، بھوکا رکھو۔ غلام ہے تو بڑی طرح مارو، پیو، گلیوں میں گھسیٹو۔ حضرت سمیہ اور حضرت یاسر (رضی اللہ عنہما) کو ابو جہل نے بدترین اور شرمناک ترین تشدد کر کے شہید کیا۔ جوان بیٹے، عمار بن یاسر کو ستون سے باندھا اور ان کے سامنے حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کو برباد کر کے تشدد کا نشانہ بنایا۔ مار مار کر تھک گیا تو کہا ایک دفعہ کہہ دو کہ ”تمہارا معبود بھی سچا ہے“، میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ انہوں نے اس کے منہ پر تھوک دیا۔ پھر اس نے شرمگاہ کے اندر برچھا مارا جو جسم کے آر پار ہو گیا۔ حضرت یاسر ص کے جسم کو چارو حشی اونٹوں کے ساتھ باندھ کر ان کو چار مختلف ستون میں دوڑایا گیا تو ان کے جسم کے پرخچے اڑ گئے۔ لیکن رسول ﷺ کا حکم یہ تھا کہ گُفو اَنِيد لیکم ابھی اپنے ہاتھ بندھے رکھو! اس کا فلسفہ میں بیان کر چکا ہوں کہ مسلمان اُس وقت تعداد میں بہت قلیل تھے۔ اگر اس وقت وہ کوئی جوابی کارروائی کرتے تو انہیں کچل کر رکھ دیا جاتا۔ جبکہ انہیں ایک قوت بننے کے لئے مہلت عمل درکار تھی۔ دوسرے یہ کہ تشدد کا یک طرف نشانہ بننے سے انہیں عوام کی ہمدردی ایام حاصل ہو رہی تھیں۔ حضرت بلاں ص کی گردن میں رسی ڈال کر ان کا آقا چھوکروں کے ہاتھ میں تھما دیتا کہ اسے کھینچو۔ جیسے ان

راضی ہوں، مجھے اس تشدد کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔“

أَعُوذُ بِنُورِ وَجْهِكَ الَّذِي أَشَرَّ قَسْطَلَةَ الظُّلُمَتِ

”اے رب اے میں تیرے روئے انور کی خیاء کی پناہ میں آتا ہوں جس سے  
ظلمات منور ہو جاتے ہیں۔“

اس سے گہری کوئی فریاد ہو سکتی ہے؟ لیکن دیکھئے، حضور ﷺ کی دوستیں ہیں، مقامِ  
عبدیت اور مقامِ رسالت۔ (وَإِشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ) یہاں وہ نسبت  
عبدیت غالب آ رہی ہے: (إِنَّمَا يَنْهَا عَنِّي غَضْبُكَ فَلَا أَبْلَى) ”پور دگار اگر تو  
ناراض نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں!“ سرِ تسلیمِ خم ہے جومزاج یار میں آئے !!

## انقلابِ نبویؐ میں اقدام اور چیلنج کا مرحلہ

اگلا مرحلہ اقدام (Active Resistance) کا ہے۔ میں نے کہا  
تھا کہ اس مرحلے میں قدم رکھنے کا فیصلہ نہایت نازک ہوتا ہے۔ حضور ﷺ کے  
معاملے میں اس مرحلے میں داخل ہونے کا فیصلہ اللہ کی طرف سے تھا لہذا غلطی کا  
کوئی امکان ہی نہیں تھا۔ لیکن آئندہ جو بھی تحریک ہوگی اس کی قیادت یہ فیصلہ  
کرے گی اور اس میں غلطی کا امکان موجود ہے گا۔ نیک نیتی کے ساتھ غلطی کی  
صورت میں دنیا میں ناکامی کے باوجود آخرت کی کامیابی یقینی ہے۔ تحریک  
شہید یعنی انسیوں صدی کی سب سے بڑی انقلابی تحریک تھی۔ اس تحریک میں سید  
احمد بریلویؒ سے غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے قبل از وقت (pre-mature) قدم  
الٹھالیا اور پٹھانوں کے علاقے میں جا کر فوراً شریعت نافذ کر دی۔ انہوں نے اپنی  
ہجرت کو رسول ﷺ کی ہجرت پر قیاس کرتے ہوئے یہ سمجھا کہ جیسے ہجرت کے  
بعد حضور ﷺ نے شریعت نافذ کر دی تھی اسی طرح میں رائے بریلی سے چل کر  
ہجرت کر کے یہاں آ گیا ہوں لہذا شریعت کا نفاذ کر دینا چاہئے۔ انہوں نے یہ

خاندانی طور پر ساتھ دے رہے تھے، ان کا سایہ بھی اٹھ گیا۔ اس سال کو آپ ﷺ  
نے ”عام الحزن“ کا نام دیا کہ یہ ہمارے لئے غم کا سال ہے۔ ابوطالب کے  
انتقال سے آپ ﷺ کو جو خاندانی تحفظ حاصل تھا وہ ختم ہو گیا۔ لہذا اب دارالندوہ  
میں فیصلہ ہو گیا کہ محمد ﷺ کو قتل کر دیا جائے۔ مشورہ یہ ہوا کہ کوئی ایک آدمی  
قتل نہ کرے، ورنہ اس کے خلاف پورا خاندان ہو ہاشم کھڑا ہو جائے گا، بلکہ اس  
مقصد کے لئے تمام قبیلوں سے نوجوانوں کو چنا جائے جو یک وقت جا کر حملہ  
کریں تاکہ یہ معلوم کرنا مشکل ہو جائے کہ کس نے قتل کیا ہے۔ مکہ کی سر زمین نگ  
ہوتی نظر آئی تو آپ ﷺ نے طائف کا سفر اختیار کیا کہ شاید وہاں کوئی امیر یا کوئی  
سردار ایمان لے آئے تو میں اپنا مرکز وہاں شفت کر دوں۔ وہاں حضور ﷺ کے  
ساتھ تین دنوں میں جو کچھ بیتی، وہ مکہ میں دس سال میں نہیں بیتی تھی۔ آپ ﷺ پر  
پھراو ہوا، شدید ترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور حسمِ اطہر خون سے لہو لہان ہوا۔ اس  
موقع پر آپؐ کے قلب کی گہرائیوں سے جو فریاد لکھی ہے اسے نقل کرتے ہوئے بھی  
لکھجہ شق ہوتا ہے:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَشْكُنْتُ مُصْنَعَ قُوَّتِي وَقِيَّةَ حِيلَتِي وَصَوْانِي عَلَى النَّاسِ

”اے اللہ! کہاں جاؤں، کہاں فریاد کروں، تیری ہی جناب میں فریاد لے  
کر آیا ہوں، اپنی قوت کی کی اور اپنے وسائل و ذرائع کی کی کی  
اور لوگوں میں جو رسیاں ہو رہی ہے، اس کی۔“

إِلَيْ مَنْ تَكْفِنِي؟ إِلَيْ بَعْيَدٍ حَمْنَى أَذْلَى عَذَّرٌ مَلَكَتْ أَمْرِي؟

”اے اللہ! تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ کیا تو نے میرا معاملہ دشمنوں  
کے حوالے کر دیا ہے کہ وہ جو چاہیں میرے ساتھ کر گزریں؟“

إِنَّمَا يَنْهَا عَنِّي غَضْبُكَ فَلَا أَبْلَى!

”پور دگار! اگر تیری رضا یہی ہے اور اگر تو ناراض نہیں ہے تو پھر میں بھی

تو خاک میں مل اور آگ میں جل، جب خشت بنے تب کام چلے  
ان خام دلوں کے عضر پر نبیاد نہ رکھ تعمیر نہ کر!  
لہذا آپ ﷺ نے ہجرت کے بعد اقدام (Active Resistance) کا  
فیصلہ کیا۔ لیکن چھ میینے میں آپ نے اپنی پوزیشن کو مستحکم بنانے کی خاطر تین کام  
کئے۔ اولاً مسجد نبوی تعمیر فرمائی، جو عبادت گاہ بھی تھی، خانقاہ اور درس گاہ بھی تھی،  
پارلیمنٹ اور مشاورت کی جگہ بھی تھی، یہی گورنمنٹ ہاؤس کا مقام بھی رکھتی تھی،  
یہیں پر وفد بھی آرہے تھے۔ گویا مسلمانوں کا ایک مرکز وجود میں آ گیا۔ ثانیاً  
آپ ﷺ نے مہاجرین اور انصار کے مابین ”مواخات“، قائم فرمادی اور ہر  
مہاجر کو کسی ایک انصاری کا بھائی قرار دے دیا۔ چنانچہ انصارِ مدینہ نے اپنے ان  
مہاجر بھائیوں کو اپنے گھروں اور دکانوں میں سے حصے دیئے اور اپنے ذرائع  
معاش میں ان کو شریک کیا۔ اس مواخات میں ایسی ایسی مثالیں بھی سامنے آئیں  
کہ انصاری بھائیوں نے اپنے مکانوں اور دکانوں کے درمیان دیواریں کھڑی  
کر کے انہیں نصف نصف تقسیم کر کے مہاجر بھائیوں کو دے دیا۔ یہاں تک کہ ایک  
انصاری کی دو بیویاں تھیں۔ اُس وقت پردوے کے احکام ابھی نہیں آئے تھے وہ تو  
کہیں پانچ چھ سال بعد آئے۔ وہ انصاری اپنے مہاجر بھائی کو اپنے گھر لے گئے  
اور کہا کہ یہ میری دو بیویاں ہیں، ان میں سے جو تمہیں لپسند ہوا شارہ کرو، میں اسے  
طلاق دے دوں گا تم اس سے شادی کر لینا۔ رسول اللہ ﷺ نے تمہیں میرا بھائی  
قرار دیا ہے اور میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ تمہارا گھر آباد نہ ہو اور میرے گھر  
میں دو دو بیویاں ہوں۔ یہ مواخات کا درس تھا۔

ہجرت کے بعد چھ ماہ کے دوران رسول ﷺ نے تیراواہم کام یہ کیا کہ  
مدینہ میں آباد یہودی قبائل کے ساتھ مشترکہ دفاع کے معاملہ کر لئے۔  
آپ ﷺ کے اس اقدام کی مثمری واث اور ثانیّت بی نے بہت زیادہ تعریف کی

نہیں دیکھا کہ حضور ﷺ کو تو مدینے والے خود آ کر لے گئے تھے، آپ کو تو کوئی  
لینے نہیں گیا تھا۔ لہذا کچھ وقت لگانا چاہئے تھا کہ مقامی آبادی کا ذہن تیار ہو، ان کا  
فکر پختہ ہو، ان کے دلوں میں ایمان و یقین راسخ ہو اور پھر وہ اپنے رسوم و رواج کو  
چھوڑنے کے لئے تیار ہو جائیں۔ آپ سے غلطی ہوئی، لیکن چونکہ یہ غلطی پورے  
خلوص و اخلاص اور نیک نیتی کے ساتھ ہوئی لہذا اللہ کے ہاں ان کا اجر و ثواب  
محفوظ ہو گیا، اگرچہ دنیا میں تحریک ناکامی سے دوچار ہو گئی۔ مولانا مودودی سے  
بھی بہت بڑی غلطی ہوئی کہ وہ چھ سال تک جس طریق کا رپریل پیرار ہے  
تھے جب تک ہندوستان ایک ملک تھا، اُسے پاکستان آ کر تبدیل کر دیا اور  
انتخابات کے میدان میں آگئے کہ شاید لوگ ہمیں ووٹ دیں گے اور ہم حکومت بنا  
لیں گے اور جب حکومت ہماری ہوگی تو سارا نظام ہم خود ہی بدلت دیں گے۔ نظام  
تعلیم بدلت دیں گے، نظامِ معاشرت تبدیل کر دیں گے۔ ذرائع ابلاغ ہمارے ہاتھ  
میں ہوں گے تو ہم پوری قوم کی وہنی و فکری تربیت کریں گے۔ تو بظاہر بڑا عمل  
معاملہ تھا کہ اگر بملی کے گلے میں گھنٹی لکھا دی جائے تو چوہوں کا مسئلہ حل ہو جائے  
گا۔ تو ایکشن کے ذریعے سے کامیابی کا یہ سراب سامنے آیا تو وہ دھوکہ کھا گئے۔  
اس لئے کہ ابھی یہاں کی فضلا تو تیار نہیں تھی۔ ابھی محدودے چند لوگ ان کی  
دعوت سے واقف تھے۔ لہذا عوام کی اکثریت انہیں ووٹ کیسے دے دیتی؟  
بہر حال غلطیاں ہوتی ہیں اور غلطیوں کے نتیجے میں دنیا میں ناکامی ہو جاتی ہے،  
لیکن غلطی اگر نیک نیتی سے ہو تو آخرت کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں آتی۔

### مدینہ میں حضور ﷺ کے ابتدائی اقدامات

رسول ﷺ ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو یہاں اوس اور خزر ج  
دونوں قبیلے ایمان لے آئے تھے۔ ادھر کہ سے جو جمیعت تیار ہو کر آئی تھی یہ سو  
ڈیڑھ سو آدمی تھے جو آزمائش کی بھیوں میں سے گزر کر آئے تھے۔

انداز اختیار کیا کہ نہیں نہیں، حضور ﷺ نے کوئی جگ خود شروع نہیں کی تھی، یہ تو حضور ﷺ نے اپنے دفاع میں جنگیں کی تھیں۔ حالانکہ یہ بات سو فیصد جھوٹ ہے۔ مکہ کے پر سکون تالاب میں بھی بالچل حضور ﷺ نے پیدا کی تھی۔  
وہ بھل کا کڑکا تھا یا صوت ہادیٰ عرب کی زمین جس نے ساری ہلا迪!  
ورنہ وہاں کے لوگ سب کے سب اپنی قسمت پر صابر و شاکر رہے تھے۔ اسی طرح ہجرت کے بعد مکہ والوں کے خلاف راست اقدام (Active Resistance) اور بالآخر تصادم (Armed Conflict) کا آغاز بھی محمد رسول ﷺ نے فرمایا۔

غزوہ بدر سے قبل ایک سال کے عرصے میں آپ ﷺ نے جو آٹھ مہماں روانہ کیں ان کے دو مقصد سامنے آتے ہیں۔ جدید اصطلاحات کے حوالے سے پہلا مقصد مکہ کی معاشی ناکہ بندی (Economic Blockade) اور دوسرا مقصد قریش کی سیاسی ناکہ بندی (Isolation or Political Containment) تھا۔ قریش کے قافلے جس راستے سے گزرتے تھے، آپ نے اس کو مندوش بنادیا اور قریش کو گویا یہ پیغام دے دیا کہ اب ہم یہاں موجود ہیں اور آپ کے تجارتی قافلے ہماری زدیں ہیں۔ جو راستہ مکہ سے شام جاتا تھا، وہ بدر سے گزرتا تھا۔ بدر مکہ سے دوسویں دور ہے جبکہ مدینہ سے اس کا فاصلہ صرف نوے میل ہے۔ آپ نے قریش کے تجارتی قافلوں کو روکنے کے لئے کئی ہمیں ادھر بھیجیں۔ خود ایک بڑی ہم لے کر گئے اور اس بڑے قافلے کا پیچھا کیا جو ابوسفیان لے کر شام جا رہا تھا، لیکن وہ بچ کر نکل گیا۔ اسی طرح مکہ سے یہن جانے والے قافلے طائف سے ہو کر گزرتے تھے۔ ادھر بھی آپ نے ایک ہم بچ دی۔ پھر آپ جہاں گئے وہاں کے قبیلوں سے آپ نے معاهدے کر لئے۔ یا تو وہ پہلے قریش کے حلیف تھے اب حضور ﷺ کے ہو گئے، یا انہوں نے غیر جانبدارانہ حیثیت اختیار کر لی

ہے اور اسے آپ ﷺ کے حسن تدبیر اور statesmanship کا عظیم مظہر قرار دیا ہے۔ مدینہ میں یہود کے تین قبائل بونقیقاں، بنو نصیر اور بنو قریظہ آباد تھے جو بڑی strategic پوزیشن میں تھے۔ مدینے کے باہر ان کی گڑھیاں اور قلعے تھے۔ رسول ﷺ نے ”بیثاق مدینہ“ کے نام سے ان تینوں قبائل سے مشترکہ دفاع کا معاهدہ کر لیا۔ آج بعض لوگ احتمالہ طور پر بیثاق مدینہ کو اسلامی ریاست کے دستور کا نام دیتے ہیں، حالانکہ یہ مشترکہ دفاع کا ایک معاهدہ (Joint Defence Pact) تھا کہ اگر مدینے پر حملہ ہوا تو مسلمان اور یہودی مل کر حملہ آور کا مقابلہ کریں گے۔ اس معاهدے سے رسول ﷺ کی پوزیشن بہت مضبوط ہو گئی۔

## غزوہ بدر سے قبل آٹھ مہماں

مدینہ میں اپنی پوزیشن مستحکم بنانے کے بعد آپ ﷺ نے Active Resistance کے طور پر چھوٹے چھوٹے چھاپے مار قسم کے گروپ بھیجنے شروع کر دیئے۔ غزوہ بدر سے پہلے آپ نے ایسی آٹھ مہماں روانہ کیں، جن میں سے چار میں حضور ﷺ خود بھی شریک ہوئے اور چار میں آپ شریک نہیں ہوئے۔ لہذا ان میں سے چار غزووات اور چار سرایا کہلاتی ہیں۔ اس عرصے میں مکہ والوں کی طرف سے کوئی حرکت نہیں ہوئی۔ یعنی اب جو initiative وہ حضور ﷺ کی طرف سے لیا گیا۔ افسوس کہ اس بات کو چھپانے کے لئے ہمارے ہاں سیرت نبوی میں تحریف کی گئی ہے۔ اس لئے کہ جس طرح آج کل ویشن میڈیا پر پیگنڈا کرتا ہے کہ اسلام تواریخ سے پھیلا ہے، اسلام تو خونی مذہب ہے، اسلام دہشت گردی کا درس دیتا ہے، اسی طرح جب یورپ کی استعماری طاقتیں عالم اسلام پر قابض ہوئیں تو مستشرقین نے اسلام کے خلاف اسی طرح کا زہر بیلا پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ اس پر ہمارے مصنفوں نے معدتر خواہانہ (apologetic)

اڑاؤ گے؟ تم محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو اور عربوں کو آپ میں نہیں دو۔ اگر محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) جیت گیا تو ہمارا راج پورے عرب پر ہو گا۔ یہ بات تھی جو فی الحقیقت ہو کر رہی۔ خلافتِ راشدہ کے بعد دورِ ملوکیت میں پھر وہی عرب تھے جن کی حکومتیں قائم ہوئیں، چاہے بنو امیہ تھے، چاہے بنو عباس تھے۔ اس قدر گہری بات اُس شخص نے کہی جس نے اہل مکہ کو متاثر بھی کیا۔

ان فاختائی مزاج لوگوں (Doves) کا مکہ میں خاصا اثر و سوختا، لیکن دو واقعات ایسے وقوع پذیر ہو گئے کہ جنگجو اور مشتعل مزاج لوگوں (Hawks) کا پڑا بھاری ہو گیا اور یہ Doves بالکل خاموش ہو گئے۔ ایک تو یہ کہ ابوسفیان کا وہ قافلہ جس کا حضور ﷺ نے پیچھا کیا تھا اور وہ فتح کرنکیا تھا، اب مالِ تجارت سے لدا پھندا شام سے واپس آ رہا تھا۔ ابوسفیان نے قریش کو SOS کا ل بھیج دی کہ مجھے خطرہ ہے کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے آدمی قافلے پر حملہ کریں گے اور ہمیں لوٹ لیں گے، الہذا فوری طور پر مدد بھیجی جائے۔ ابوسفیان کا پیغام لے کر ایک آدمی چنتا چلاتا ہوا مکہ پہنچا کہ تمہارا قبیلہ تمہارا خاندان اور تمہارا مال خطرے میں ہے، الہذا فوراً مدد کو پہنچو۔ دوسری طرف ایک اور واقعہ ہو گیا۔ حضور ﷺ نے بارہ افراد کا ایک چھوٹا سا دستہ نخلہ بھیجا تھا جو طائف اور مکہ کے درمیان ایک مقام ہے اور انہیں ہدایت کی تھی کہ وہاں قیام کرو اور ہمیں وہاں سے مکہ کے لوگوں کی نقل و حرکت سے مطلع کرتے رہو۔ وہاں ایسی صورت حال پیش ہوئی کہ مکہ والوں کے ایک قافلے کے ساتھ ان کی مدد بھیز ہو گئی، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کے ہاتھوں ایک مشرک مارا گیا، دو کو وہ گرفتار کر کے لے آئے اور ایک بھاگ گیا۔ مسلمان کئی اونٹوں کے اوپر لدا ہوا مال بطور غنیمت لے کر حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس پر حضور ﷺ نا راض ہوئے کہ میں نے تمہیں جنگ کا حکم نہیں دیا تھا۔ لیکن اب جو ہونا تھا، ہو چکا تھا۔ جو مشرک مسلمانوں کے ہاتھوں فتح کر بھاگا تھا وہ

کہ نہ ہم قریش کے خلاف آپؐ کی مدد کریں گے، نہ آپؐ کے خلاف قریش کی مدد کریں گے۔ ان دونوں طرح کے معاہدوں سے قریش کی طاقت کم ہوئی۔ اس طرح رسول اللہ ﷺ نے متذکرہ بالادونوں مقاصد حاصل کر لئے۔

ہر قوم میں دو طرح کے انسان ہوتے ہیں۔ آج کی اصطلاح میں انہیں عقابی مزاج کے لوگ (Doves) اور فاختائی مزاج کے لوگ (Hawks) کہا جاتا ہے۔ مکہ میں بھی ہر دو طرح کے لوگ موجود تھے۔ جو شیلے اور مشتعل مزاج لوگوں (Hawks) میں ابو جہل اور عقبہ بن ابی معیط بہت نمایاں تھے، جبکہ شہنشہ مزاج اور بردبار طبیعت کے حامل لوگوں (Doves) میں عقبہ بن ربعہ اور حکیم بن حزام نمایاں تھے۔ مقدم الذکر طبقے کا کہنا تھا کہ چلواب مدینے پر حملہ کرو اور محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اور ان کے ساتھیوں کا قلع قلع کر دو۔ جبکہ مؤخر الذکر اس طرح کے اقدام کے حق میں نہیں تھے۔ عقبہ بن ربعہ بہت زیرِ انسان تھا۔ اس نے رسول اللہ ﷺ کی ہجرت کے بعد قریش سے کہا تھا کہ دیکھو محمدؐ اور اس کے ساتھی یہاں سے چلے گے (ان کے خیال میں وہ بلا ان کے سر سے توٹ لگی)، اب مدینہ جا کر بھی محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) آرام سے تو نہیں بیٹھے گا بلکہ اپنے دین کی تبلیغ کرے گا۔ اس سے عرب اس کے خلاف ہوں گے اور بقیہ عربوں سے اس کی شکمش ہو گی۔ تو اگر باقی عرب کو محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فتح کر لیا تو ہمارا کیا نقصان ہے، وہ ہمارا قرشی بھائی ہے، اس کی جیت ہماری جیت ہے، اس کی فتح سے عرب پر ہماری حکومت قائم ہو جائے گی، اور اگر عربوں نے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو ہلاک کر دیا تو جو تم چاہتے ہو وہ ہو جائے گا بغیر اس کے کہم اپنے بھائیوں کے خون سے اپنی تواریں آ لودہ کرو۔ آخراً بکر کون ہے؟ ہمارا بھائی نہیں ہے کیا؟ عمر کون ہے؟ اور یہ عثمان کون ہے؟ بنو امیہ میں سے ہے۔ حمزہ کون ہے؟ عبدالمطلب کا بیٹا ہے۔ اور محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کون ہے؟ عبدالمطلب کا پوتا ہے۔ تم اپنی تواروں سے ان کی گرد نہیں

خون کا فوارہ چھوٹ پڑا۔ اتنا خون بہا کہ آپ بے ہوش ہو کر گر گئے اور مشہور ہو گیا کہ حضور ﷺ شہید ہو گئے۔ ستر صحابہ کرام میں شہید ہوئے، جن میں حضرت حمزہ صلی اللہ علیہ وسلم شامل تھے۔ ان کے حضور ﷺ کے ساتھ کئی رشتے تھے۔ وہ آپ ﷺ کے چچا بھی تھے، خالہ زاد بھائی بھی اور دودھ شریک بھائی بھی، جو عربوں کے ہاں سے بھائی شمار ہوتے تھے۔ پھر وہ آپ ﷺ کے بھپن کے بھپن کے ہم جوں اور دوست تھے۔ اور ان کی لاش اس حالت میں آئی کہ ناک کٹی ہوئی ہے، کان کے ہوئے ہیں، پیٹ چاک کر کے لکھجہ چبایا گیا ہے۔ چنانچہ جان لیجئے کہ انقلاب برپا کرنے کا یہ کام گھر بیٹھے نہیں ہوا۔ اس کے لئے بڑی قربانیاں دی گئی ہیں۔ بہر حال چونکہ یہ کام بھرپور تیاری کے بعد کیا گیا تھا لہذا چھسال کے عرصے پر بحیط اس مسلح تصادم کا نتیجہ فتحِ مکہ کی صورت میں نکلا اور انقلابِ نبویؐ کی تکمیل ہو گئی۔

﴿جَاءَ أُخْشَى وَزَهْقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهْقًا﴾

فتحِ مکہ کے بعد رسول اللہ ﷺ نے جو جنگیں لڑیں ان کی حیثیت ملٹری کی اصطلاح میں Mopping-up operation کی تھی، جس کے ذریعے مختلف قوتوں کا آخری قلع قلع کر دیا جاتا ہے۔ فتحِ مکہ پر اندر وین عرب انقلاب کی تکمیل ہو گئی۔

## انقلابِ نبویؐ کی توسعہ و تصدر

اب مجھے دو باتوں کی مزیدوضاحت کرنی ہے۔ پہلی بات یہ کہ نبی اکرم ﷺ نے صلحِ حدیبیہ سے قبل نہ کوئی مبلغ عرب سے باہر بھیجا، نہ اپنا کوئی خط یا پیغام کسی سربراہ حکومت کے نام بھیجا۔ دس سال تک سارا کام مکے میں ہی کیا۔ اس کے بعد طائف کا سفر فرمایا۔ انقلابی عمل کا خاصہ یہ ہے کہ یہ ابتداء میں پھیلتا نہیں ہے۔ مشری اور تبلیغی کام خربوزے یا گلڑی کی بیتل کی طرح زمین پر پھیلتا ہے، جبکہ انقلابی عمل ایک ہی مقام پر اپنی جڑیں جما کر اور پراٹھتا ہے۔ جیسے آم کی گھٹلی پھٹتی

کپڑے پھاڑ کر چھٹا چلاتا ہوا مکہ پہنچا کہ لوگوں کی محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے آدمیوں نے ہمارا آدمی مار دیا۔ یہ دو خبریں یہک وقت مکہ پہنچیں، ایک شمال سے اور دوسری جنوب سے۔ ہجرت کے بعد اب تک مشرکین نے کسی مسلمان کو نہیں مارا تھا۔ ہجرت سے پہلے حضرت سمیہ اور حضرت یاسیر رضی اللہ عنہما کو ابو جہل نے شہید کیا تھا، لیکن ہجرت کے بعد اہل مکہ کی طرف سے کوئی اقدام نہیں ہوا تھا۔

## انقلابِ نبویؐ کا چھٹا مرحلہ: مسلح تصادم

متذکرہ بالا دو واقعات کی وجہ سے Doves کو خاموش ہونا پڑا اور اس کے نتیجے میں غزوہ بدر سے محمد رسول اللہ ﷺ کی انقلابی جدوجہد کے چھٹے مرحلے یعنی مسلح تصادم کا آغاز ہو گیا۔ یہ رسول اللہ ﷺ اور قریش کے مابین دو طرفہ جنگ تھی جو قریباً چھ سال جاری رہی اور اس دوران تقریباً ۸۰ مسلح تصادم کے مابین کئی معزکے ہوئے۔ غزوہ بدر میں قریش کے ستر بڑے بڑے سردار مارے گئے اور چودہ صحابہ شہید ہو گئے۔ احمد میں اللہ تعالیٰ کی عالمہ ہو گیا کہ بعض صحابہؓ کی غلطی سے ستر صحابہ شہید ہو گئے۔ تفاصیل کے لئے میری کتاب ”منیج انقلابِ نبویؐ“ کا مطالعہ کنجھے۔ یہ تو میں اس خاکے میں رنگ بھر رہا ہوں، لیکن آپ کو سیرت نہیں پڑھا رہا، فلسفہ سیرت سمجھا رہا ہوں۔ قریش مکہ سے آپؐ کی چھ سالہ طویل جنگ کے ار رمضاں المبارک سن دو ہجری کو شروع ہوئی اور دس رمضاں المبارک ۸ ہجری کو فتحِ مکہ پر اختتام پذیر ہوئی۔ اس دوران بہت سے اتار چڑھاؤ آئے۔ مختلف غزوتوں میں سینکڑوں صحابہ کو جانوں کی قربانی دینی پڑی۔ غزوہ احمد میں حضور ﷺ خود بھی مجروح ہوئے اور دندانِ مبارک بھی شہید ہوئے۔ تلوار کا وار چہرہ مبارک پر پڑا تو جو خود آپؐ پہنچنے ہوئے تھے اس کی دو کڑیاں رخسار مبارک کی ہڈی کے اندر رکھ گئیں۔ ایک صحابیؓ نے دانتوں سے پکڑ کر کھینچ کر نکالنا چاہا تو ان کے دانت اکھڑ گئے مگر وہ نہیں نکلیں۔ کسی طریقے سے انہیں نکالا گیا تو

## منبع انقلابِ نبویؐ کا حالاتِ حاضرہ پر انطباق

دوسری بات یہ کہ آج وقت کے دریا میں بہت سا پانی بہہ گیا ہے اور حالات میں بہت تبدیلی آچکی ہے۔ لہذا اس وقت ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ آج کے دور میں نبی اکرم ﷺ کے طریق انقلاب پر جوں کا توں عمل کیا جائے گا اس کے لئے کسی اجتہاد کی ضرورت ہے۔ میرے خیال میں اوپر بیان کئے گئے پہلے پانچ مرحل میں قطعاً کسی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا انقلابی نظریہ آج بھی وہی نظریہ توحید ہے اور آج بھی ہمیں ایمان کی دعوت دینی ہے جس کا منبع و سرچشمہ قرآن ہے۔ یہ قصور درست نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو ہمارے اندر ایمان تو موجود ہے۔ اس لئے کہ اسلام اور شے ہے، ایمان اور شے ہے۔ ہم مسلمان اس لئے ہیں کہ مسلمان ماں باپ کے گھر پیدا ہو گئے ہیں۔ ایمان ہمیں اپنے قلوب واذہان میں خود پیدا کرنا ہے۔ تو توحید پر آخرت پر رسالت پر یقین والا ایمان ہماری اولین ضرورت ہے۔

یقین پیدا کرائے ناداں یقین سے ہاتھ آتی ہے  
وہ درویشی کہ جس کے سامنے جھکتی ہے فغوری!

رسول ﷺ کا آلہ انقلاب قرآن تھا۔ آج بھی یہی قرآن ہمارا آلہ انقلاب ہے۔ لہدار جو عالم القرآن کی دعوت وسیع پیانے پر عام کی جائے۔ میرے نزدیک قرآن کی حیثیت مقناطیس کی ہے جو سلیم الفطرت لوگوں کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ جن لوگوں کی فطرت مسخ ہو چکی ہواں پر اس کا اثر نہیں ہوتا۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ مقناطیس لوہے کے ٹکڑوں کو تو کھینچ لے گا لیکن لکڑی کے ٹکڑوں کو نہیں کھینچ گا۔ لہذا قرآن کے مقناطیس کو اس معاشرے میں پھیلانے کی ضرورت ہے۔ الحمد للہ کہ میں نے چالیس برس تک اس شہر لاہور میں قرآن کی

ہے تو اس سے دوپتے نکلتے ہیں، اس سے آم کا پودا بنتا ہے جو تناور درخت بن کر برگ وبارلاتا ہے۔ محمد رسول ﷺ کی انقلابی جدوجہد مشنری انداز کی نہیں تھی بلکہ انقلابی انداز کی تھی۔ کی زندگی کے ابتدائی دو ریس آپؐ کے پاس مال و دولت کی کمی نہ تھی۔ اس وقت حضرت خدیجہؓ کی دولت موجود تھی جو انہوں نے آپؐ کی خدمت میں پیش کر دی تھی۔ اس وقت آپؐ چاہتے تو قیصر و کسری اور دوسرے حکمرانوں کو خطوط بھیج سکتے تھے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، مجھ پر ایمان لاو! لیکن آپؐ نے ایسا نہیں کیا۔ بھرت مدنیہ کے بعد آپؐ نے عرب کے مختلف قبائل سے معاهدے کئے لیکن عرب سے باہر کوئی وند نہیں بھیجا۔ وہ توجہ صلح حدیبیہ ہو گئی اور قریش نے گویا آپؐ کو مختلف قوت کے طور پر تسليم (recognize) کر لیا، جسے قرآن حکیم نے فتح میں قرار دیا تو آپؐ نے کسری، ہرقل، مقوس، نجاشی اور ان رو سائے عرب کی طرف جو جزیرہ نماۓ عرب کی سرحدوں پر آباد تھے اور انہوں نے اس وقت تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، اپنے دعویٰ و تبلیغی نامہ ہائے مبارک چند صحابہ کرام ث کے ہاتھ روانہ کئے۔ ان نامہ ہائے مبارک کے نتیجے میں ملوک و سلاطین کی جانب سے مختلف رہ عمل سامنے آئے۔ ملک غسان نے جو ہرقل کے تابع تھا، آپؐ کے سفیر حارث بن عمیر حص کو شہید کر دیا۔ حضور ﷺ نے ان کے قصاص کے لئے لشکر تیار کر کے بھیجا اور غزوہ موتہ کا معزکہ ہوا۔ اس کے بعد پھر غزوہ تبوک کا معاملہ ہوا۔ اس طرح محمد رسول ﷺ کی حیات طیبہ ہی میں تصدیر انقلاب (یعنی Exporting of Revolution) کے مرحلے کا آغاز بھی ہو گیا۔ یعنی حضور ﷺ کی حیات طیبہ میں نہ صرف اندر وین ملک عرب انقلاب کی تبلیغ ہو گئی بلکہ عرب سے باہر کام کا آغاز آپؐ نے اپنے دست مبارک سے کیا اور پھر یہ ذمہ داری امت کے سپرد فرمائی کہ تم نے اس کام کو آگے بڑھانا ہے۔

رشوت چھوڑنی ہوگی، لیکن اس سے اپنے گھروالے دشمن ہو جائیں گے۔ اس لئے کہ وہ ناشتے میں پہلے پرائٹ اور انڈے کھاتے تھے، اب انہیں روکھی سوکھی پر گزارہ کرنا پڑے گا۔ سورۃ النفاین میں ارشاد ہے: ﴿يَا يَحْمَدُ اللَّهُ مِنْ أَمْوَالِ إِنَّ مِنْ آذَ وَاجْهَمْ وَأَوَّلَادِكُمْ عَدُوُّ الْكُمْ فَاخْذُ رُؤْسَهُمْ﴾ (آیت ۱۲) ”اے ایمان والو! تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے تمہارے دشمن ہیں، پس ان سے فیکر رہو۔“ آپ اپنے گھر میں شرعی پرده نافذ کریں گے تو آپ کی پوری برادری آپ کا سوچل بایکاٹ کر دے گی۔ تو یہ ہے وہ صبر محض (Passive Resistance) کا مرحلہ جس سے ابھی ہم گزر رہے ہیں، لیکن اللہ کرے کہ وہ وقت بھی آئے کہ اتنے لوگ مجتمع ہوں کہ حکومت کو ان سے اندر یہ لاحق ہو جائے کہ یہ اس نظام کے لئے خطرہ بن سکتے ہیں۔ پھر دارو گیر ہوگی، دارو رسن کا معاملہ ہوگا۔

دورِ حاضر میں حالات واقعۃ اس درجے تبدیل ہو گئے ہیں کہ انقلاب کے آخری مرحلے یعنی مسلح تصادم (Armed Conflict) کے بارے میں اجتہاد کی واقعی ضرورت ہے۔ اس لئے کہ نبی اکرم ﷺ کے دور میں ایک طرف مسلمان اور دوسری طرف کفار تھے اور حربی کافر کی گردان مارنے میں کسی کو کیا جھک ہو سکتی تھی۔ جبکہ آج صورت حال یہ ہے کہ ادھر بھی مسلمان ہیں اور ادھر بھی مسلمان۔ ہمارے حکمران جیسے بھی ہوں، ہیں تو مسلمان۔ بھٹو بے نظیر، ضیاء الحق، نواز شریف اور پرویز مشرف سب مسلمان ہیں۔ دوسرے یہ کہ اس زمانے میں طاقت کا فرق صرف تعداد کے اعتبار سے تھا۔ ادھر ۳۱۳ رضا کار (volunteers) تھے تو ادھر ایک ہزار رضا کار۔ ادھر بھی با قاعدہ تربیت یافتہ مسلح فوج نہیں تھی۔ ایسا بھی نہیں تھا کہ ادھر بیٹک، تو پیں، میزائل اور بم ہوں اور ادھر جاہدین صرف تواریں لئے کھڑے ہوں۔ رسول اللہ ﷺ کی فوج کا رسالہ دو گھوڑوں پر مشتمل تھا، ادھر سو گھوڑوں پر مشتمل رسالہ تھا۔ چنانچہ تعداد میں فرق ضرور تھا، نو عیت کے اعتبار

چکی پچھری ہے۔ مجھے یہ خطاب بھی دے دیا گیا تھا کہ یہ قرآن کا قول ہے اور میں نے خوشی سے اس خطاب کو قبول کیا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ۔

”ماہر چہ خواندہ ایم فراموش کر دہ ایم

ala hadiyyat دوست کہ تکرار می کنیم“

کے مصدقات میں نے جو کچھ پڑھا تھا سب بھلا دیا۔ میڈیکل پڑھی تھی سب بھلا دی۔ ہاں یہ حدیث دوست ہے، اللہ کا کلام ہے، اس کی تکرار میں کر رہا ہوں۔ بہر حال پہلا زینہ یہی ہو گا۔ پھر جو لوگ اس میگنٹ کے ساتھ چمٹ کر آ جائیں انہیں بیعت کی بنیاد پر متظلم کیا جائے، جو محمد رسول اللہ ﷺ ہمارے لئے بطور اسوہ چھوڑ گئے ہیں۔ تنظیم کی بنیاد کسی انگریزی نظام پر نہ ہو، کوئی دو تین سال کی امارت کا معاملہ نہ ہو، کوئی انتخاب امیر کا معاملہ نہ ہو، بلکہ جس داعی نے تمہیں دعوت دی اور تم نے اس کی بات کو صحیح تسلیم کیا، اس کی دعوت پر اعتماد کیا، اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ اس عہد کے ساتھ دے دو کہ ہم شریعت کے دائرہ کے اندر اندر آپ کا حکم مانیں گے۔ اپنا مشورہ ضرور دیں گے، لیکن فیصلہ آپ کا ہو گا۔ جو لوگ اس بنیاد پر جمع ہو جائیں اب ان کی تربیت کی جائے۔ قرآن ان کے اندر اتارا جائے۔ راتوں کو جا گئے کی تشویق دلائی جائے۔ اللہ کی راہ میں اتفاقی مال اور بذلی نفس کی تلقین کی جائے۔ نفاق کو ختم کرنے والی شے اتفاق ہے۔

اس کے ساتھ ساتھ صبر محض (Passive Resistance) کا مرحلہ بھی شروع ہو جاتا ہے۔ آج صبر محض کی شکل کیا ہوگی؟ ہم ابھی حکومت کے لئے کوئی خطرہ نہیں ہیں۔ مکہ کی چھوٹی سی آبادی میں تو سوچا س آدمی بھی خطرہ بن کر نظر آ گئے تھے، لیکن یہاں پندرہ کروڑ میں دو چار ہزار آدمی ایسے ہوں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ لہذا ابھی ان پر حکومت کی طرف سے یا اس نظام کی طرف سے کوئی دارو گیر شروع نہیں ہوگی۔ البتہ ان کا امتحان شریعت پر عمل کرنے میں ہو گا۔ انہیں

لیکسیشن پالیسی، ہیلتھ پالیسی یا امیگریشن پالیسی کا ہوگا۔ برطانیہ میں کنز رویوز اور لیبر پارٹی کے نام سے دو پارٹیاں ہیں۔ نظام کے بارے میں ان کے مابین بھی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہاں، اگر امریکہ میں کیونسٹ ہوں تو وہ نظام کے خلاف بولیں گے۔ چنانچہ سی ایشل اور واشنگٹن میں گلو بلاائزیشن کے خلاف ہونے والے مظاہرے یہ پتادیتے ہیں کہ وہاں کیونسٹ عضر موجود ہے۔ لیکن ظاہر بات ہے وہ لوگ ایکشن کا راستہ کبھی بھی اختیار نہیں کریں گے، ایکشن کے ذریعے ان کی کامیابی کا سوال ہی نہیں۔

### موجودہ دور میں اقدام کی نوعیت

دریں حالات ایک ہی راستہ باقی ہے۔ وہ یہ کہ ایک پُر امن، منظم عوامی تحریک اٹھے جو توڑ پھوڑ نہ کرے اور سرکاری یا غیر سرکاری املاک کو نقصان نہ پہنچائے۔ البتہ یہ لوگ خود جانیں دینے کو تیار ہوں۔ اس کو میں ”یک طرفہ جنگ“ سے تعبیر کرتا ہوں۔ یہ لوگ سڑکوں پر آ کر منکرات کے خلاف احتجاجی مظاہرے کریں۔ یہ لوگ حکومت پر اپنا موقف واضح کریں کہ ہم نے منکرات کے انسداد کے لئے آپ سے بہت درخواستیں کیں، آپ کے آگے ہاتھ جوڑے کہ خدار اسود ختم کر دو، لیکن اب ہم picketing کریں گے، دھرنادیں گے، بینکوں کا گھیراؤ کریں گے اور اس سودی نظام کو جیتے جی نہیں چلنے دیں گے۔ چلاو، ہم پر گولیاں!

میرے خیال میں اس وقت انقلاب کے لئے یہی قابل عمل طریقہ ہے۔ اگر ہم مشتعل ہو کر اسلحہ اٹھائیں تو کس کے خلاف اٹھائیں گے؟ بری افواج یا ایئر فورس کے خلاف؟ کیا ہماری ماضی کی حکومتوں نے بلوچستان میں دو مرتبہ ایئر فورس استعمال نہیں کی؟ کیا ایئر فورس کے ذریعے سے حافظ الاصد نے ایک دن میں ہزاروں اخوان ختم نہیں کر دیئے تھے؟ اور ان کا مرکز بمبئی کر کے چاہ و بر باد نہیں کر دیا تھا؟ تو آج مقابلہ بہت غیر مساوی (unequal) ہے۔

سے کوئی فرق نہ تھا۔

مزید برآں عمرانی ارتقاء (Social Evolution) کے نتیجے میں آج اس بات کا امکان موجود ہے کہ بغیر جنگ کے حکومت تبدیل کی جاسکتی ہے۔ آج یہ ماں جاتا ہے کہ ریاست اور ہے، حکومت اور ہے۔ شہری ریاست کے وفادار ہوتے ہیں، حکومت کے نہیں۔ حکومت کی تبدیلی تو عوام کا حق ہے۔ اس وقت تک ابھی عمرانی ارتقاء اس سطح تک نہیں پہنچا تھا، لہذا حکومت اور ریاست گذمڈ تھے۔ اب یہاں پر بغیر جنگ کے حکومت تبدیل کرنے کے دوراستہ ہیں، ایک ایکشن کا راستہ اور ایک احتجاجی تحریک (Agitation) کا راستہ۔ ایکشن کے راستے سے نظام نہیں بدل سکتا، خواہ ایکشن کتنا ہی شفاف اور منصفانہ ہو۔ اس سے تو صرف نظام کو چلانے والے ہاتھ بدل جاتے ہیں۔ اس لئے کہ آپ کے معاشرے میں طاقت کے جو ستون موجود ہیں ایکشن میں انہی کا انکاس ہو گا۔ اگر ملک میں جا گیردارانہ نظام ہے تو کوئی سرمایہ دار ہی آئے گا۔ یہ تو شہروں میں کچھ تبدیلی ہوتی رہتی ہے کہ کبھی کراچی میں جماعت اسلامی کی پوزیشن مستحکم ہو گئی تھی، کبھی ایم کیوائیم کی ہو گئی۔ کیونکہ شہروں میں نہ جا گیردار ہیں نہ قبائلی سردار۔ البتہ ہمارے دیہی علاقوں میں سرمایہ دارانہ اور جا گیردارانہ نظام قائم ہے۔ سرمایہ دار اور جا گیردار ایکشن کے ذریعے منتخب ہو کر اقتدار میں آئیں گے تو کیا وہ جا گیرداری اور سرمایہ داری ختم کر دیں گے؟ اس طرح تو وہ اپنے پاؤں پر خود کھڑا ہی ماریں گے۔ تو جان لیجئے کہ ایکشن کسی نظام کو چلانے کے لئے ہوتا ہے، اسے بدلنے کے لئے نہیں ہوتا۔ امریکہ میں دو پارٹیز ہیں، ری پبلیکنز اینڈ ڈیموکریٹس۔ ان دونوں کے مابین امریکہ کے نظام کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ دونوں پارٹیوں کا دعویٰ صرف یہ ہے کہ ہم اس نظام کو اچھے انداز سے چلا سکتے ہیں۔ ان کے منشور میں فرق ہو گا تو

کے بازو پکڑ کر اکٹتے ہوئے کہا تھا کہ میری یہ کرسی بہت مضبوط ہے۔ مجھے آج تک وہ نقشہ یاد ہے۔ لیکن جب لاہور سے پیغام پہنچ گیا کہ فوج کا اب یہ نقطہ نظر ہے تو وہ کرسی ڈول گئی۔ پھر انہوں نے پی این اے کو مذکرات کا پیغام بھجوایا۔ بہر حال اسلامی انقلاب کے لئے جانیں تو دینی ہوں گی، اس کے بغیر یہ کام نہیں ہوگا۔

دورِ حاضر میں ہمارے سامنے ایرانیوں کی مثال موجود ہے کہ انہوں نے اپنی جانیں دے کر انقلاب برپا کر دکھایا۔ اگرچہ ایرانی انقلاب کو میں صحیح اسلامی انقلاب نہیں سمجھتا، بلکہ میرے نزد یہ ایک حقیقی انقلاب بھی نہیں تھا، اس لئے کہ وہ اپنی سرحدوں سے باہر نکل نہیں سکا، جبکہ ”تصدیر انقلاب“، ایک حقیقی انقلاب کا لازمی خاصہ ہے۔ ۱۹۸۲ء میں میں نے مسجددار السلام باغ جناح میں اس موضوع پر خطابات کئے تھے کہ کیا ایرانی انقلاب اسلامی انقلاب ہے؟ اور پھر اس کے بعد ”منیج انقلاب نبوی“ کے موضوع پر گیارہ تقریبیں کی تھیں، جن کا خلاصہ آج آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ وہ تقریبیں اب ”منیج انقلاب نبوی“ کے نام سے کتابی شکل میں شائع ہو چکی ہیں۔ اگر آپ کے دل میں ذرا بھی کوئی جذبہ ابھرا ہے تو اس کتاب کا مطالعہ ضرور کریں۔

## وقت کی اہم ترین ضرورت

آج کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ طریق انقلاب واضح ہو جائے۔ آج مسلمانوں میں جذبے کی کمی نہیں ہے۔ ہزاروں لوگ جانیں دے رہے ہیں۔ اپنے جسموں سے بھم باندھ کر اپنے جسموں کو اڑا رہے ہیں۔ کشمیر کے اندر جو جذبہ ابھرا اسے پوری دنیا نے دیکھ لیا۔ کشمیریوں کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ تو لڑنے والی قوم ہے، ہی نہیں، اب اس کے اندر جان پیدا ہو چکی ہے۔ پاکستان سے

جہاں ممکن ہو دو طرفہ جنگ بھی ہو سکتی ہے، کسی پہاڑی ملک میں کوئی چھاپہ مار جنگ بھی ہو سکتی ہے، یہ حرام نہیں ہے۔ دین کو قائم کرنے کے لئے حضور ﷺ نے جنگ لڑی ہے تو ہم بھی لڑ سکتے ہیں اور کلمہ گو کے خلاف بھی لڑ سکتے ہیں۔ امام ابوحنفیہ کے موقف کے مطابق مسلمان حکمران اگر فاسق و فاجر ہوں تو ان کے خلاف بغاوت کی جا سکتی ہے۔ پہلے تو امر بالمعروف و نہیں عن الممنکر زبان سے کیا جائے۔ اگر یہ زبان سے کہنا موثر ثابت نہ ہو تو پھر توارکے ذریعے سے امر بالمعروف و نہیں عن الممنکر کیا جاسکتا ہے۔ تو جنگ اگرچہ جائز ہے، لیکن موجودہ حالات میں عملًا ممکن نہیں ہے۔ آج کے مسلمان حکمرانوں کے خلاف یہ طرفہ جنگ ہی موزوں لائجہ عمل ہے۔

اگر کسی حکومت کے خلاف اس طرح کی ایک احتجاجی تحریک چلتی ہے تو ظاہر ہے اسے روکنے کی کوشش کی جائے گی۔ شروع میں فوج حکومت کا حکم مانے گی اور مظاہرین پر گولیاں چلانے گی۔ لیکن ایک وقت میں آ کر فوج ہاتھ اٹھادے گی کہ ہم اپنے ہم وطنوں کا مزید قتل نہیں کر سکتے۔ یہ کوئی قابض فوج نہیں ہے، قومی فوج ہے، اور جو سامنے کھڑے ہیں وہ بھی کہیں اور سے نہیں آئے۔ ۱۹۱۹ء میں جلیانوالہ باغ میں جزل ڈائر نے اگر سینکڑوں ہزاروں افراد بھون کر رکھ دیئے تھے تو اسے ان کا کیا دکھ تھا؟ وہ انگریز تھا اور مرنے والے ہندوستانی تھے، چاہے مسلمان ہوں چاہے ہندو یا سکھ ہوں۔ لیکن اپنی قوم کے لوگوں کو مارنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ ایک حد تک تو حکومت کی تعییں کی جاتی ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب اپنے فوجی افسر ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں۔ جیسے لاہور میں بریگیڈیئر محمد اشرف گوندل، اللہ تعالیٰ انہیں اجر و ثواب دے کھڑے ہو گئے کہ اب ہم لوگوں پر مزید گولیاں نہیں چلانیں گے۔ پھر دو اور بریگیڈیئر کھڑے ہو گئے اور بھٹو صاحب کو پیغام مل گیا۔ چند دن پہلے انہوں نے ٹیلی ویژن پر خطاب کرتے ہوئے اپنی کرسی

ان میں سے تھے ع ”یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا!“ پھر یہ کہ ان کی زبان میں اللہ نے اپنی آخری کتاب نازل فرمائی۔ ہم تو چنانی توزیعیم حاصل کرنے کے بعد عربی سیکھ کر قرآن کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن ان کی یہ مادری زبان ہے۔

بہرحال پاکستان کی بقا اسی میں ہے کہ یہاں اسلامی انقلاب آئے۔ یہی اس کی وجہ جواز ہے۔ ورنہ پاکستان کا حال تو اس وقت یہ ہے جیسے سورۃ الواقعہ کے آخری رکوع میں نقشہ کھینچا گیا ہے کہ جب کسی پر نزع کا عالم ہوتا ہے اور اس کے رشتہ دار کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ جارہا ہے، لیکن بے بس ہوتے ہیں۔ فرمایا: ﴿فَلَوْلَا إِنْ لَهُ شَرْمٌ عَيْرَ مَدِيشِينَ . تَرْجُونَهُ إِنْ كُنْتُمْ طَدِقِينَ ۚ﴾ ”پھر اگر تم کسی کے مکوم نہیں ہو تو اس کی نکتی ہوئی جان کو واپس کیوں نہیں لے آتے اگر تم اپنے خیال میں سچے ہو؟“ اسی طرح میں کہہ رہا ہوں کہ یہ پاکستان جا رہا ہے۔ پھر آپ کے محل آپ کے نہیں، کسی اور کے ہوں گے۔ آپ کی ملیں، آپ کے کارخانے کسی اور کے ہوں گے ع ”دیکھنا ان بستیوں کو تم کہ ویراں ہو گئیں!“ اگر یہاں اسلام نہ آیا تو پاکستان کو باقی رہنے کا حق حاصل نہیں رہے گا۔ میں نے ”موجودہ عالمی حالات کے پس منظر میں اسلام اور پاکستان کا مستقبل“ کے جامع عنوان کے تحت دو تقریریں کی تھیں۔ (۱) م موجودہ عالمی حالات کے پس منظر میں اسلام کا مستقبل (۲) کیا پاکستان کے خاتمے کی اٹی نکتی شروع ہو چکی ہے؟ اور کیا ابھی نجات کی کوئی راہ کھلی ہے؟ — نجات کی واحد راہ یہ ہے کہ یہاں اسلامی نظام لا یا جائے۔ لیکن اس کی خواہش اور جذبہ رکھنے والوں کے سامنے چونکہ طریق کا رواضح نہیں ہے لہذا وہ ادھر ادھر بھکتے پھر رہے ہیں۔

میں نے سیرت نبویؐ سے استفادہ کرتے ہوئے، اس سے استنارُوُر کرتے ہوئے آپ کے سامنے وہ طریق انقلاب رکھ دیا ہے کہ اس کو اختیار کریں گے تو کامیابی کا امکان ہے، ورنہ آپ کا خلوص و اخلاص اپنی جگہ پر، کامیابی ممکن نہیں۔

جا کر کتنے لوگوں نے وہاں پر جام شہادت نوش کر لیا۔ لیکن اسلامی انقلاب کا طریق کاری نہیں ہے۔ اس سے کہیں کامیابی نہیں ہوگی۔ اس طریقے سے آپ صرف اپنا غصہ نکال سکتے ہیں۔ آپ نے جا کر افریقہ میں امریکہ کے دوسفارت خانوں کو بم سے اڑا دیا، اس سے امریکی تو دس پندرہ مرے جبکہ ۲۰۰ وہاں کے لوکل افریقی مر گئے۔ فائدہ کیا ہوا؟ بس یہی کہ آپ نے اپنا غصہ نکال لیا۔ تو ان طریقوں سے کچھ حاصل نہیں ہو گا۔ ایکشن سے بھی کچھ حاصل نہیں ہو گا۔ اس طرح اسلامی انقلاب کا خواب کھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکے گا۔ آپ کا خلوص اپنی جگہ لیکن یہ طریقہ غلط ہے۔ اسلامی انقلاب کے لئے طریقہ محمدی اختیار کرنا ہو گا۔ کیا خصوبہ عرب میں ایکشن کے ذریعے سے کامیاب ہو سکتے تھے؟ قرآن تو کہتا ہے ﴿وَإِنْ تُطْعِنُ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُصْلِلُوكُ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ (الانعام: ۷۶) ”اگر تم زمین میں رہنے والوں کی اکثریت کی پیروی کرو گے تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے گمراہ کر کے چھوڑ دیں گے۔“ ایکشن میں تو صرف اکثریت اقلیت کا مسئلہ ہے۔ میں اس سے بھی بڑھ کر کہتا ہوں، کیا آیت اللہ خمینی ایکشن کے ذریعے ایران میں بر سر اقتدار آ سکتے تھے؟ قطعاً ناممکن! خدا کے لئے اپنے آپ کو دھوکہ دینا چھوڑ دو۔ آج پوری امت عذابِ الہی سے صرف اس صورت میں نکل سکتی ہے کہ کم از کم کسی ایک ملک میں اللہ کے دین کو قائم کر کے پوری دنیا کو دعوت دے سکے کہ آؤ دیکھو، یہ ہے اسلام! اس کی برکتیں دیکھو۔ اس کی سعادتیں دیکھو۔ یہاں کی مساوات اور یہاں کا بھائی چارہ دیکھو۔ یہاں کی آزادی دیکھو۔ یہاں کا امن و امان دیکھو!! اگر ہم یہ نہ کر سکے تو پھر اللہ کا عذاب سخت سے سخت تر ہو گا۔ ع ”اور کچھ روز فضاوں سے لہو بر سے گا!“ عذاب کی شدت بڑھے گی، گھٹے گی نہیں۔ اور سب سے بڑھ کر عالم عرب پر عذاب خداوندی کے کوڑے برسیں گے۔ اس لیے کہ ان پر اللہ کا بہت بڑا احسان ہوا تھا۔ رسول عربی محمد رسول اللہ ﷺ